

کتاب آزلہ الی اللہ سبحانہ التامیذہ الظلمات الی اللہ نور
”یہ کتاب ہم نے آپ نازل فرمائی ہے تاکہ آپ کو انہی میں سے گزانتے کہ فرمائے ہیں“

بفرضہ تعالیٰ تمام تفسیریں اس تفسیر

تفسیر ابن کثیر

جلد اول

ترجمہ از فقیر ترین

حافظ عماد الدین ابوالفداء ابن کثیر

مترجمہ

خطیب الہند مولانا محمد جونگڑھی

مکتبہ قدوسیہ

خوبصورت اور معیاری مطبوعات

کتاب و سنت
کی
نشر و اشاعت
کے لیے
کوشاں

جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں

اشاعت — 2006

الہتمام طباعت

ابوبکر قدوسی

قدوسی اسلامک پریس

Out Fal Road
Ph:042-7146761

مکتبہ قدوسیہ


رسول پلازہ، امامیہ بازار، فیصل آباد
Ph: 041-2640194

مکتبہ قدوسیہ

رحمان مارکیٹ • فرنی شریف • اردو بازار • لاہور پاکستان
Ph:042-7230585-7351124

www.quddusia.com Email:qadusia@brain.net.pk


تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

۶۲	• الحمد کا تعارف و مفہوم	۲۳	• حمد و ثناء کے حقوق کا واحد مالک
۶۳	• آمین اور سورہ فاتحہ	۲۴	• حجت تمام رسول اللہ ﷺ
۶۵	• اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان	۲۴	• بیوہ پاری علماء کا حشر
۶۸	• سات لمبی سورتوں کی فضیلت	۲۵	• تفسیر کا بہترین طریقہ
۶۹	• حروف مقطعات اور ان کے معنی	۲۵	• اہمیت حدیث
۷۳	• تحقیقات کتاب	۲۸	• اپنی رائے اور تفسیر قرآن
۷۴	• متقین کی تعریف	۳۰	• قرآن حکیم سے متعلق کچھ معلومات
۷۴	• ہدایت کی وضاحت	۳۱	• آیت کے لفظی معنی
۷۵	• ایمان کی تعریف	۳۳	• بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف اقوال اور سورہ فاتحہ
۷۷	• قیام صلوٰۃ کیا ہے؟	۳۴	• سورہ فاتحہ کی فضیلت
۸۰	• ہدایت یافتہ لوگ	۴۲	• بسم اللہ یا آواز بلند یا دی آواز سے؟
۸۳	• منافقت کی قسمیں	۴۳	• رسول اللہ ﷺ کا انداز قرأت
۸۵	• شک و شبہ بیماری ہے	۴۴	• فصل بسم اللہ کی فضیلت کا بیان
۹۱	• شک، کفر اور نفاق کیا ہے؟	۴۶	• اللہ نے اپنے تمام (صفائی) نام خود تجویز فرمائے ہیں
۹۴	• منافقین کی ایک اور پہچان	۴۶	• اللہ کے مترادف المعنی کوئی نام نہیں!
۹۷	• تعارف الہ بزبان الہ	۴۸	• الرحمن اور الرحیم کے معنی
۹۹	• اثبات وجود الہ العظیم	۵۰	• الحمد للہ کی تفسیر
۱۰۱	• تصدیق نبوت اعجاز قرآن	۵۱	• حمد کی تفسیر اقوال سلف سے
۱۱۴	• خلافت آدم کا مفہوم	۵۳	• بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان!
۱۱۶	• خلیفہ کے فرائض اور خلافت کی نوعیت	۵۴	• حقیقی وارث و مالک کون ہے؟
۱۲۲	• تعارف اہلبیت	۵۵	• عبادت کا مفہوم
۱۲۴	• اعزاز آدم علیہ السلام	۵۶	• عبادت اور طلب
۱۲۷	• جنت کے حصول کی شرائط	۵۷	• حصول مقصد کا بہترین طریقہ
۱۲۷	• بنی اسرائیل سے خطاب	۵۸	• صراط مستقیم کیا ہے؟
۱۳۰	• دو غلام اور یہودی	۶۰	• انعام یافتہ کون؟
۱۳۰	• مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات	۶۰	• مغضوب کون؟

- ۲۱۱ • مدینہ منورہ افضل یا مکہ مکرمہ؟
- ۲۲۱ • دعائے ابراہیم علیہ السلام کا حاصل
- ۲۲۲ • توحید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر
- ۲۲۳ • ازلی اور ابدی مستحق عبادت اللہ وحدہ لا شریک
- ۲۲۵ • اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب!
- ۲۲۶ • شرط نجات
- ۲۲۷ • مشرکین کے اعمال سے بیزاری
- ۱۳۲ • صبر کا مفہوم
- ۱۳۳ • حشر کا منظر
- ۱۴۰ • یہود پہ احسانات الہیہ کی تفصیل
- ۱۴۳ • احسان فراموش یہود
- ۱۴۶ • یہود کون ہیں؟
- ۱۴۸ • عہد شکن یہود
- ۱۵۳ • حجت بازی کا انجام
- ۱۵۴ • بلا وجہ تجسس موجب عتاب ہے
- ۱۵۶ • یہودی کردار کا تجزیہ
- ۱۵۹ • امی کا مفہوم اور ویل کے معنی
- ۱۶۳ • اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد
- ۱۶۸ • خود پسند یہودی مور و عتاب
- ۱۶۹ • مہابہ اور یہودی مع نصاریٰ
- ۱۷۰ • خصوصیت جبرئیل علیہ السلام موجب کفر و عصیان
- ۱۷۳ • سلیمان علیہ السلام جادو گر نہیں تھے
- ۱۸۲ • جادو کی اقسام
- ۱۸۵ • جادو اور شجر
- ۱۸۷ • مسلمانوں کا فرسوں کی صورت لباس اور زبان میں مشابہت سے بچو!
- ۱۸۸ • تبدیلی یا تنسیخ۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے
- ۱۹۰ • کثرت سوال حجت بازی کے مترادف ہے!
- ۱۹۲ • قومی عصبیت باعث شقاوت ہے
- ۱۹۳ • شیطان صفت مغرور یہودی
- ۱۹۴ • نصاریٰ اور یہودی مکافات عمل کا شکار!
- کعبہ صرف علامت وحدت و سمت ہے اللہ کا جمال و جلال
- ۱۹۶ • غیر محدود ہے
- ۱۹۹ • اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے کے دلائل
- ۲۰۱ • طلب نظارہ۔ ایک حماقت
- ۲۰۲ • آپؐ نصیحت کی حد تک مسئول ہیں
- ۲۰۳ • دین حق کا باطل سے سمجھوتہ جرم عظیم ہے
- ۲۰۵ • امام توحید
- ۲۰۵ • مکمل اسلام
- ۲۰۷ • شوق زیارت اور بڑھتا ہے
- ۲۰۹ • عہد جو مترادف حکم ہے





تفسیر ابن کثیر

چند اہم مضامین کی فہرست

۳۰۷	• جہاد بقائے ملت کا بنیادی اصول	۲۳۱	• تحویل کعبہ ایک امتحان بھی تھا اور تقرر جہت بھی
۳۱۱	• حرمت شراب کیوں	۲۳۷	• صفات نبوی سے اغماض برتنے والے یہودی علماء
۳۱۲	• عفو اور اس کی وضاحتیں	۲۳۹	• اللہ کی یاد شکر ہے اور بھول کفر ہے!
۳۱۳	• پاک دامن عورتیں	۲۴۱	• وفائے عہد کے لیے آزمائش لازم ہے
۳۱۵	• ایام حیض اور جماع سے متعلقہ مسائل	۲۴۳	• صفا اور مردہ کا طواف
۳۲۱	• قسم اور کفارہ	۲۴۵	• حق بات کا چھپانا جرم عظیم ہے
۳۲۳	• ایلا اور اس کی وضاحت	۲۴۸	• محبت الہ اپنی پسند ہے؟
۳۲۴	• طلاق کے مسائل	۲۴۹	• روزی دینے والا کون؟
۳۲۷	• رسم طلاق میں آئینی اصلاحات اور ضلع	۲۵۰	• گمراہی اور جہالت کیا ہے؟
۳۳۳	• آئین طلاق کی وضاحت	۲۵۱	• حلال اور حرام کیا ہے؟
۳۳۵	• مسئلہ رضاعت	۲۵۳	• بدترین لوگ
۳۳۷	• خاوند کے انتقال کے بعد	۲۵۵	• ایمان کا ایک پہلو
۳۴۰	• پیغام نکاح	۲۵۷	• قصاص کی وضاحت
۳۴۱	• حق مہر کب اور کتنا؟	۲۶۰	• وصیت کی وضاحت
۳۴۲	• صلوة و سطحی کون سی ہے؟	۲۶۲	• رواد اور روزہ اور صلوة
۳۴۹	• بیوگان کے قیام کا مسئلہ	۲۶۵	• نزول قرآن اور ماہ رمضان
۳۵۱	• موت اور زندگی	۲۶۸	• دعا اور اللہ عجیب الدعوات
۳۵۲	• خوئے بدر ابہانہ بسیار	۲۷۰	• رمضان میں مراعات اور کچھ پابندیاں
۳۵۵	• تابوت سلیمان اور جنگ طالوت و جالوت	۲۷۷	• چاند اور مدد و سال
۳۵۶	• نہر الشریعہ	۲۷۸	• حکم جہاد اور شرائط
۳۵۷	• جالوت مارا گیا	۲۸۱	• بیعت رضوان
		۲۸۷	• حج اور عمرہ کے مسائل
		۲۸۸	• احرام کے مسائل
		۲۹۷	• ایام تشریق
		۳۰۱	• تذکرہ شفاعت
		۳۰۲	• آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک


تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| ۴۱۶ | • انبیاء کے قاتل بنو اسرائیل | ۳۶۱ | • ذکر مدارج الانبیاء |
| ۴۱۷ | • مالک الملک کی حمد و ثناء | ۳۶۲ | • آج کے صدقات قیامت کے دن شریک غم ہوں گے! |
| ۴۱۸ | • ترک موالات کی وضاحت | ۳۶۷ | • جبر اور دعوت اسلام |
| ۴۱۹ | • اللہ تعالیٰ سے ڈر ہمارے لئے بہتر ہے | ۳۷۰ | • ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آ مناسا منا |
| ۴۲۰ | • جھوٹا دعویٰ | ۳۷۳ | • معمر حیات و موت |
| ۴۲۱ | • سب سے پہلے نبی علیہ السلام | ۳۷۵ | • مخیر حضرات کی تعریف اور ہدایات |
| ۴۲۲ | • مریم بنت عمران | ۳۷۷ | • کفر اور بڑھاپا |
| ۴۲۳ | • زکریا علیہ السلام کا تعارف | ۳۷۸ | • خراب اور حرام مال کی خیرات مسترد |
| ۴۲۴ | • حاصل دعا یحییٰ علیہ السلام | ۳۸۰ | • نیک اور بد لوگ ظاہر اور در پردہ حقیقت |
| ۴۲۶ | • تین افضل ترین عورتیں | ۳۸۲ | • مستحق صدقات کون ہیں؟ |
| ۴۲۸ | • مسیح ابن مریم علیہ السلام | ۳۸۳ | • تجارت اور سود کو ہم معنی کہنے والے کج بحث لوگ |
| ۴۲۹ | • فرشتوں کا مریم سے خطاب | ۳۸۷ | • سود کا کاروبار برکت سے محروم ہوتا ہے |
| ۴۳۰ | • پھانسی کون چڑھا؟ | ۳۸۸ | • سود خور قابل گردن زدنی ہیں اور قرض کے مسائل |
| ۴۳۲ | • اختیارات کی وضاحت اور نجرانی وفد کی روداد | ۳۹۱ | • حفظ قرآن اور نین دین میں گواہ اور لکھنے کی تاکید |
| ۴۳۱ | • حضرت ابراہیم سے متعلق یہودی اور نصرانی دعوے کی تردید | ۳۹۶ | • مسئلہ زہن تحریر اور گواہی! |
| ۴۳۲ | • یہودیوں کا حسد | ۳۹۷ | • انسان کے ضمیر سے خطاب |
| ۴۳۵ | • جھوٹی قسم کھانے والے | ۳۹۹ | • بقرہ کی آخری آیات اور ان کی فضیلت |
| ۴۳۷ | • غلط تاویل اور تحریف کرنے والے لوگ | ۴۰۲ | • آیت الکرسی اور اسم اعظم |
| ۴۳۸ | • مقصد نبوت | ۴۰۲ | • خالق کل |
| ۴۳۹ | • انبیاء سے عہد و میثاق | ۴۰۶ | • راسخ فی العلم کون |
| ۴۵۱ | • اسلامی اصول اور روز جزا | ۴۰۷ | • جہنم کا ایندھن کون لوگ؟ |
| ۴۵۲ | • توبہ اور قبولیت | ۴۰۸ | • اولین معرکہ حق و باطل |
| ۴۵۳ | • جب سانس ختم ہونے کو ہوں تو توبہ قبول نہیں ہوگی | ۴۱۰ | • دنیا کے حسن اور آخرت کے جمال کا تقابل |
| | | ۴۱۲ | • متقیوں کا تعارف |
| | | ۴۱۳ | • اللہ وحدہ لا شریک اپنی وحدت کا خود شاہد |

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست





- ۵۲۳ • سب سے زیادہ پیاری چیز اور صدقہ
- ۵۲۸ • ذکر بیت اللہ اور احکامات حج
- ۵۳۰ • کافروں کا انجام
- ۵۳۱ • کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟
- ۵۳۷ • اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن حکیم ہے
- ۵۳۸ • یوم آخرت منافق اور مومن کی پہچان
- ۵۴۰ • سب سے بہتر شخص کون؟ اور سب سے بہتر امت کا اعزاز کس کو ملا؟
- ۵۴۲ • ظلم نہیں سزا
- ۵۴۳ • کافرا اور منافق مسلمان کے دوست نہیں، اپنا ہم راز نہ بناؤ
- ۵۴۵ • غزوہ احد کی افتاد
- ۵۴۸ • غزوہ بدر اور تائید الہی
- ۵۵۲ • سود خور، جہنمی ہے
- ۵۵۵ • جنت کی خصوصیات
- ۵۵۶ • سیاحہ کار عورت اور اس کی سزا
- ۵۵۷ • عالم نزع سے پہلے توبہ؟
- ۵۵۹ • عورت پر ظلم کا خاتمہ
- ۴۵۷ • شہادت اور بشارت
- ۴۵۹ • رسول اللہ ﷺ کی وفات کا مغالطہ اور غزوہ احد
- ۴۸۱ • کافرا اور منافقوں کے ارادے
- ۴۸۱ • تلواروں کے سایہ میں ایمان کی جانچ
- ۴۸۳ • باطل خیالات کی نشاندہی
- ۴۸۴ • اسوۂ حسنہ کے مالک نبی کریم ﷺ
- ۴۸۶ • غزوات سچے مسلمان اور منافق کے بے نقاب کرنے کے ذریعہ
- ۴۸۷ • بیڑ معونہ کے شہداء اور جنت میں ان کی تمنا؟
- ۴۸۸ • مشفق نبی کریم ﷺ اور عوام
- ۴۹۰ • کافروں کا قرض حسنہ پر احمقانہ تبصرہ
- ۴۹۸ • موت و حیات اور یوم حساب
- ۴۹۹ • بدترین خرید و فروخت!
- ۵۰۰ •
- ۵۰۶ •
- ۵۰۸ •
- ۵۱۵ •
- ۵۱۷ •
- ۵۱۹ •
- ۵۲۲ •

تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| ۶۴۴ | • حکم جہاد امتحان ایمان ہے! | ۵۷۵ | • آزادگورتوں سے نکاح اور کیتروں سے متعلق ہدایات |
| ۶۴۵ | • سلام کہنے والے کو اس سے بہتر جواب دو | ۵۸۰ | • پچاس سے پانچ نمازوں تک |
| ۶۴۶ | • منافقوں سے ہوشیار رہو | ۵۸۰ | • خرید و فروخت اور اسلامی قواعد و ضوابط |
| ۶۴۹ | • قتل مسلم قصاص و دیت کے مسائل اور قتل خطا | ۵۸۲ | • احترام زندگی |
| ۶۵۵ | • مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل ناقابل معافی جرم ہے | ۵۸۳ | • سات کبیرہ گناہ |
| ۶۵۷ | • مجاہد اور عوام میں فرق | ۵۹۰ | • مسئلہ وراثت میں مولیٰ؟ وراثت اور عصبیہ کی وضاحت و اصلاحات |
| ۶۶۵ | • صلوة خوف کے مسائل | ۵۹۲ | • مرد عورتوں سے افضل کیوں؟ |
| ۶۷۰ | • حقیقت چھپ نہیں سکتی | ۵۹۵ | • حقوق العباد اور حقوق اللہ |
| ۶۷۲ | • سچی توبہ کبھی مسترد نہیں ہوتی | ۵۹۸ | • اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ سے کترانے والے بخیل لوگ! |
| ۶۷۵ | • مشرک کی پہچان اور ان کا انجام | ۶۰۳ | • بتدریج حرمت شراب اور پس منظر |
| ۶۷۸ | • مصائب گناہوں کا کفارہ | ۶۰۵ | • آداب مسجد اور مسائل تیمم |
| ۶۸۳ | • یتیموں کے مریبوں کی گوشمالی اور منصفانہ احکام | ۶۱۱ | • یہودیوں کی ایک مذموم خصلت |
| ۶۸۴ | • میاں بیوی میں صلح و خیر کا اصول | ۶۱۳ | • قرآن حکیم کا اعجاز تاثیر |
| ۶۸۶ | • مانگو تو صرف اللہ اعلیٰ و اکبر سے مانگو | ۶۱۴ | • منہ پر تعریف و توصیف کی ممانعت |
| ۶۸۸ | • انصاف اور سچی گواہی تقوے کی روح ہے | ۶۲۰ | • یہودیوں کی دشمنی کی انتہا اور اس کی سزا |
| ۶۸۹ | • ایمان کی تکمیل مکمل اطاعت میں مضمر ہے | ۶۲۰ | • عذاب کی تفصیل اور نیک لوگوں کا انجام بالآخر |
| ۷۹۰ | • صحبت بد سے بچو | ۶۲۱ | • امانت اور عدل و انصاف |
| ۶۹۱ | • عمل میں صفر و عوی میں اصلی مسلمان | ۶۲۳ | • مشروط اطاعت امیر |
| ۶۹۴ | • کافر سے دوستی آگ سے دوستی کے مترادف ہے | ۶۲۷ | • حسن سلوک اور دو غلے لوگ |
| | | ۶۲۸ | • اطاعت رسول ﷺ ہی ضامن نجات ہے |
| | | ۶۳۳ | • طاقتور اور متحد ہو کر زندہ رہو |
| | | ۶۳۵ | • شیطان کے دوستوں سے جنگ لازم ہے |
| | | ۶۳۶ | • اولین درس صبر و ضبط |
| | | ۶۳۷ | • سوت سے فرار ممکن نہیں |
| | | ۶۴۴ | • ظاہر و باطن نبی اکرم ﷺ کا مطبع بنا لو |
| | | ۶۴۲ | • کتاب اللہ میں اختلاف نہیں ہمارے دماغ میں فتور ہے |




تفسیر ابن کثیر

چند اہم مضامین کی فہرست

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| ۷۲۱ | • ہمارے ایمان اور کفر سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے | ۶۹۸ | • مظلوم کو فریاد کا حق ہے |
| ۷۲۲ | • اپنی اوقات میں رہو حد سے تجاوز نہ کرو! | ۶۹۹ | • کسی ایک بھی نبی کو نہ ماننا کفر ہے! |
| ۷۲۳ | • اس کی گرفت سے فرار ناممکن ہے! | ۷۰۰ | • محسوس مجرہ کی مانگ اور بنی اسرائیل کی حجت بازیاں |
| ۷۲۵ | • قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مکمل دلیل اور حجت تمام ہے | ۷۰۲ | • اہل کتاب، قاتلان انبیاء عیسیٰ کی روداد اور مراحل قیامت |
| ۷۲۶ | • عصبہ اور کلالہ کی وضاحت! مسائل وراثت | ۷۱۶ | • یہودیوں کے خود ساختہ حلال و حرام |
| | | ۷۱۷ | • نزول انبیاء، تعداد انبیاء، صحائف اور ان کے مرکزی مضامین |

پارہ نمبر ۶ کے جو مضامین اس جلد میں ہیں ان کے چند اہم
عنوانات کی فہرست دی جا رہی ہے جب کہ مزید تفسیر اگلی
جلد میں ملاحظہ کریں۔

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست



۹۴	• نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھپایا نہیں	۶	• ایک بے دلیل روایت اور وفائے عہد کی تاکید
۹۷	• آخری رسول پر ایمان اولین شرط ہے	۱۲	• حلال و حرام کی وضاحتیں
۹۷	• سیاہ عمل یہود اور نصاریٰ	۲۳	• شکاری کتے اور شکار
۹۸	• خود ساختہ معبود بنانا ناقابل معافی جرم ہے	۲۸	• ذبیحہ کس نام اور کن ہاتھوں کا حلال ہے؟
۱۰۰	• معبودان باطل	۳۱	• وضو اور غسل کے احکامات
۱۰۱	• امر معروف سے گریز کا انجام	• ”اسلام“ زبان سے عہد اور ”ایمان“ عمل سے اطاعت اس	• عہد کا اظہار ہے
۱۰۳	• یہودیوں کا تاریخی کردار	۴۰	• عہد شکن لوگ؟ اور امام مہدی کون؟
		۴۳	• علمی بددیانتی
		۴۶	• اللہ وحدہ لا شریک ہے
		۴۶	• محمد ﷺ مطلقاً خاتم الانبیاء ہیں!
		۴۸	• تسلسل انبیاء نسل انسانی پر اللہ کی رحمت ہے
		۵۰	• حسد و بغض سے ممانعت
		۵۶	• ایک بے گناہ شخص کا قتل تمام انسانوں کا قتل
		۶۱	• فساد اور قتل و غارت
		۶۲	• تقویٰ قربت الہی کی بنیاد ہے
		۶۷	• احکامات جرم و سزا
		۶۹	• جھوٹ سننے اور کہنے کے عادی لوگ
		۷۲	• قتل کے بدلے تقاضائے عدل ہے
		۷۷	• باطل کے غلام لوگ
		۸۰	• قرآن ایک مستقل شریعت ہے
		۸۱	• دشمن اسلام سے دوستی منع ہے
		۸۳	• قوت اسلام اور مرتدین
		۸۶	• اذان اور دشمنان دین
		۸۸	• بدترین گروہ اور اس کا انجام
		۸۹	• بخل سے بچو اور فضول خرچی سے ہاتھ روکو
		۹۱	

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست



- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| ۱۶۳ | • سخت لوگ اور کثرت دولت | ۱۰۶ | • ایمان والوں کی پہچان |
| ۱۶۵ | • محروم اور کامران کون؟ | ۱۰۷ | • راہبانیت (خانقاہ بینی) اسلام میں ممنوع ہے |
| ۱۶۶ | • مسلمانو! طبقاتی عصیت سے بچو | ۱۱۰ | • غیر ارادی قسمیں اور کفارہ |
| ۱۷۰ | • نیک و بد کی وضاحت کے بعد؟ | ۱۱۲ | • پانسہ بازی جو اور شراب |
| ۱۷۳ | • نیند موت کی چھوٹی بہن | ۱۱۳ | • حرمت شراب کی مزید وضاحت |
| ۱۷۵ | • احسان فراموش نہ بنو | ۱۱۸ | • احرام میں شکار کے مسائل کی تفصیلات |
| ۱۷۸ | • غلط تاویلیں کرنے والوں سے نذلو | ۱۲۳ | • طعام اور شکار میں فرق اور حلال و حرام کی مزید تشریحات |
| ۱۸۰ | • اسلام کے سوا سب راستوں کی منزل جہنم ہے | ۱۲۷ | • رزق حلال کم ہو تو برکت حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت |
| ۱۸۷ | • ابراہیم علیہ السلام اور آزر میں مکالمہ | ۱۳۰ | • بتوں کے نام کئے ہوئے جانوروں کے نام؟ |
| ۱۹۱ | • مشرکین کا توحید سے فرار | ۱۳۲ | • اپنی اصلاح آپ کرو |
| ۱۹۳ | • خلیل الرحمن کو بشارت اولاد | ۱۳۴ | • معتبر گواہی کی شرائط |
| ۱۹۷ | • تمام رسول انسان ہی ہیں | ۱۳۶ | • روز قیامت انبیاء سے سوال |
| ۱۹۸ | • مغضوب لوگ | ۱۳۷ | • حضرت عیسیٰ کے معجزات |
| ۲۰۰ | • اس کی خیرت ناک قدرت | ۱۳۸ | • بنی اسرائیل کی ناشکری اور عذاب الہی |
| ۲۰۲ | • قدرت کی نشانیاں | ۱۴۳ | • روز قیامت نصاریٰ کی شرمندگی |
| ۲۰۳ | • شیطان و عدے دھوکہ ہیں | ۱۴۶ | • موحدین کے لیے خوش خبریاں |
| ۲۰۴ | • اللہ بے مثال ہے وحدہ لا شریک ہے | ۱۴۸ | • اللہ کی بعض صفات |
| ۲۰۴ | • ہماری آنکھیں اور اللہ جل شانہ | ۱۴۹ | • کفار کو نافرمانی پر سخت انتہا |
| ۲۰۶ | • ہدایت و شفا قرآن وحدیث میں ہے | ۱۵۰ | • انسانوں میں سے ہی رسول اللہ کا عظیم احسان ہے |
| ۲۰۷ | • وحی کے مطابق عمل کرو | ۱۵۱ | • ہر چیز کا مالک اللہ ہے |
| ۲۰۷ | • سودا بازی نہیں ہوگی | ۱۵۳ | • قرآن حکیم کا باغی جہنم کا ایندھن |
| ۲۰۸ | • معجزوں کے طالب لوگ | ۱۵۵ | • قیامت کے دن مشرکوں کا حشر |
| | | ۱۵۷ | • کفار کا داویلا مگر سب بے سود |
| | | ۱۵۸ | • پیشانی مگر جہنم دکھ کر! |
| | | ۱۵۸ | • حق کے دشمن کو اس کے حال پہ چھوڑیے، آپ ﷺ سچے ہیں |
| | | ۱۶۱ | • معجزات کے عدم اظہار کی حکمت |


تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

۲۵۹	• اہلیس کا طریقہ واردات اس کی اپنی زبانی	۲۱۲	• ہرنی کو ایذا دی گئی
۲۶۰	• اللہ تعالیٰ کے نافرمان جہنم کا ایندھن ہیں	۲۱۴	• اللہ کے فیصلے اٹل ہیں
۲۶۱	• پہلا امتحان اور اسی میں لغزش اور اس کا انجام	۲۱۶	• صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا ذبیحہ حلال باقی سب حرام
۲۶۲	• سفر ارضی کے بارہ میں یہودی روایات	۲۱۶	• سدھائے ہوئے کتوں کا شکار
۲۶۳	• لباس اور داڑھی جمال و جلال	۲۱۹	• موسیٰ اور کافر کا تقابل جائزہ
۲۶۴	• اہلیس سے بچنے کی تاکید	۲۲۰	• بستیوں کے رئیس گمراہ ہو جائیں تو تباہی کی علامت ہوتے ہیں
۲۶۵	• جہالت اور طواف کعبہ	۲۲۲	• جس پر اللہ کا کرم اس پر راہ ہدایت آسان
۲۶۶	• برہنہ ہو کر طواف ممنوع قرار دے دیا گیا	۲۲۳	• قرآن حکیم ہی صراط مستقیم کی تشریح ہے
۲۶۸	• موت کی ساعت طے شدہ ہے۔۔۔ اور اٹل ہے	۲۲۴	• یوم حشر
۲۶۹	• اللہ پر بہتان لگانے والا سب سے بڑا ظالم ہے	۲۲۵	• سب سے بے نیاز اللہ
۲۷۰	• کفار کی گردنوں میں طوق	۲۲۸	• بدعت کا آغاز
۲۷۱	• بدکاروں کی روحمیں دھتکاری جاتی ہیں	۲۲۹	• نذر نیار
۲۷۳	• اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل انسانی بس میں ہے!	۲۳۰	• اولاد کے قاتل
۲۷۵	• جنتیوں اور دوزخیوں میں مکالمہ	۲۳۰	• مسائل زکوٰۃ اور عشر مظاہر قدرت
۲۷۶	• جنت اور جہنم میں دیوار اور اعراف والے	۲۳۳	• خود ساختہ حلال و حرام جہالت کا شکر ہے
۲۷۸	• کفر کے ستون اور ان کا حشر	۲۳۴	• اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حلال و حرام
۲۸۱	• آخری حقیقت جنت اور دوزخ کا مشاہدہ	۲۳۶	• مشرک ہو یا کافر توبہ کر لے تو معاف!
۲۸۲	• تمام مظاہر قدرت اس کی شان کے مظہر ہیں	۲۳۸	• نبی اکرم ﷺ کی وصیتیں
۲۸۷	• نوح علیہ السلام پر کیا گزری؟	۲۴۱	• یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید
۲۸۸	• ہود علیہ السلام اور ان کا رویہ!	۲۴۱	• شیطان راہیں فرقہ سازی
۲۸۹	• قوم عاد کا باغیانہ رویہ	۲۴۵	• قیامت اور بے بسی
۲۹۶	• شمود کی قوم اور اس کا عبرت ناک انجام	۲۴۷	• اہل بدعت گمراہ ہیں
۲۹۶	• صالح علیہ السلام ہلاکت کے اسباب کی نشاندہی کرتے ہیں	۲۵۱	• جھوٹے معبود غلط سہارے
۲۹۷	• لوط علیہ السلام کی بد نصیب قوم	۲۵۲	• اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے
۲۹۹	• خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام	۲۵۳	• سابقہ باغیوں کی بستیوں کے کھنڈرات باعث عبرت ہیں
۳۰۰	• قوم شعیب کی بد اعمالیاں	۲۵۷	• اہلیس آدم علیہ السلام اور نسل آدم

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست



- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| ۳۵۵ | • صداقت رسالت پر اللہ کی گواہی | ۳۰۲ | • شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنی بربادی کو آواز دی |
| ۳۵۶ | • قیامت کب اور کس وقت؟ | ۳۰۳ | • عوام کی فطرت |
| ۳۵۹ | • نبی ﷺ کو علم غیب نہیں تھا | ۳۰۵ | • گناہوں میں ڈوبے لوگ؟ |
| ۳۶۰ | • ایک ہی باپ ایک ہی ماں اور تمام نسل آدم | ۳۰۶ | • عہد شکن لوگوں کی طے شدہ سزا |
| ۳۶۲ | • انسان کا المیہ خود ساز خدا اور اللہ سے دوری ہے | ۳۰۸ | • نابکار لوگوں کا تذکرہ --- انبیاء اور مومنین پر نظر کرم |
| ۳۶۶ | • جو اللہ سے ڈرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے | ۳۰۸ | • موسیٰ علیہ السلام اور فرعون |
| ۳۶۸ | • سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے | ۳۰۸ | • عصائے موسیٰ اور فرعون |
| ۳۶۸ | • سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی | ۳۰۹ | • درباریوں کا مشورہ |
| ۳۷۰ | • اللہ کی یاد بکثرت کرو مگر خاموشی سے | ۳۱۰ | • جادو گروں سے مقابلہ |
| ۳۷۵ | • ایمان سے خالی لوگ اور حقیقت ایمان | ۳۱۱ | • جادوگر جحدہ ریز ہو گئے |
| ۳۷۷ | • شیعہ رسالت کے جاں نثاروں کی دعائیں | ۳۱۱ | • فرعون بیخ پا ہو گیا |
| ۳۸۰ | • سب سے پہلا غزوہ بدر بنیاد لا الہ الا اللہ | ۳۱۳ | • آخری حربہ بغاوت کا الزام |
| ۳۸۲ | • تائید الہی کے بعد فتح و کامرانی | ۳۱۷ | • انجام سرکشی |
| ۳۸۶ | • شہیدان و فدا کے قصے | ۳۱۹ | • احسانات پہ احسانات |
| ۳۸۸ | • اللہ کی مدد ہی وجہ کامرانی ہے | ۳۲۲ | • انبیاء کی فضیلت پر ایک تبصرہ |
| ۳۹۰ | • ایمان والوں کا معین و مددگار اللہ عز و جل | ۳۲۳ | • بنی اسرائیل کا پتھر سے کو پوچنا |
| ۳۹۱ | • اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق | ۳۲۵ | • موسیٰ علیہ السلام کی طور پر واپسی |
| ۳۹۱ | • دل رب کی انگلیوں میں ہیں | ۳۳۵ | • النبی العالم اور النبی الخاتم ﷺ |
| ۳۹۳ | • برائیوں سے نرو کتنا عذاب الہی کا سبب ہے | ۳۳۷ | • انبیاء کا قاتل گروہ |
| ۳۹۴ | • اہل ایمان پر اللہ کے احسانات | ۳۴۰ | • اصحاب سبت |
| ۳۹۵ | • اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو | ۳۴۲ | • اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ذلت و رسوائی |
| ۳۹۶ | • دنیا و آخرت کی سعادت مندی | ۳۴۳ | • رشوت خوری کا انجام ذلت و رسوائی ہے |
| ۳۹۷ | • رسول اللہ ﷺ کے قتل کی ناپاک سازش | ۳۴۸ | • بلعم بن باعورا |
| ۳۹۹ | • عذاب الہی نہ آنے کا سبب: اللہ کے رسول اور استغفار | ۳۵۲ | • اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے |
| ۴۰۳ | • شکست خوردہ کفار کی سازشیں | ۳۵۲ | • امت محمد ﷺ کے اوصاف |
| ۴۰۴ | • فتنے کے اختتام تک جہاد جاری رکھو | ۳۵۵ | • سامان نعیش کی کثرت عتاب الہی بھی ہے |

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست



- ۴۷۳ • مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ۴۱۰
- ۴۷۴ • اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے ذریعے ایمان کو کفر سے ممتاز کر دیا ۴۱۳
- ۴۷۵ • جہاد کے وقت کثرت سے اللہ کا ذکر ۴۱۷
- ۴۷۶ • میدان بدر میں ایلیس مشرکین کا ہمراہی تھا ۴۱۸
- ۴۷۷ • کفار کے لیے سکرات موت کا وقت بڑا شدید ہے ۴۲۲
- ۴۷۷ • اللہ ظالم نہیں لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ۴۲۳
- ۴۷۸ • زمین کی بدترین مخلوق وعدہ خلاف کفار ہیں ۴۲۳
- ۴۷۸ • کفار کے مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو ۴۲۴
- ۴۷۹ • ایک غازی دس کفار پہ بھاری ۴۲۸
- ۴۸۰ • اسیران بدر اور مشورہ ۴۲۹
- ۴۸۰ • مجاہدین بدر کی شان ۴۳۳
- ۴۸۲ • دو مختلف مذہب والے آپس میں دوست نہیں ہو سکتے ۴۳۵
- ۴۸۴ • مہاجر اور انصار میں وحدت ۴۳۵
- ۴۸۵ • جہاد اور حرمت والے مہینے ۴۴۱
- ۴۸۶ • پابندی عہد کی شرائط ۴۴۳
- ۴۸۸ • جہاد ہی راہ اصلاح ہے ۴۴۴
- ۴۸۹ • وعدہ خلاف قوم کو دندان شکن جواب دو ۴۴۵
- ۴۸۹ • ظالموں کو ان کے کیفر کردار کو پہنچاؤ ۴۴۵
- ۴۹۵ • سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں جہاد ہے ۴۴۸
- ۴۹۶ • ترک موالیات و مودت کا حکم ۴۵۰
- ۴۹۸ • نصرت الہی کا ذکر ۴۵۱
- ۴۹۸ • مشرکین کو حد و حریم سے نکادو ۴۵۵
- ۵۰۰ • بزرگ بڑے نہیں اللہ جل شانہ سب سے بڑا ہے ۴۵۷
- ۵۰۳ • احترام آدمیت کا منشور ۴۶۵
- ۵۰۳ • احکامات دین میں رد و بدل انتہائی مذموم سوچ ہے ۴۶۹
- ۴۷۳ • جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے ۴۱۰
- ۴۷۴ • عیار لوگوں کو بے نقاب کر دو ۴۱۳
- ۴۷۵ • ندادھر کے ندادھر کے ۴۱۷
- ۴۷۶ • غلط گو غلط کار کفار و منافق ۴۱۸
- ۴۷۷ • فتنہ و فساد کی آگ منافق ۴۲۲
- ۴۷۷ • جد بن قیس جیسے بد تمیزوں کا حشر ۴۲۳
- ۴۷۸ • بد فطرت لوگوں کا دوغلا پن ۴۲۳
- ۴۷۸ • شہادت ملی تو جنت، بچ گئے تو غازی ۴۲۴
- ۴۷۹ • کثرت مال و دولت عذاب بھی ہے ۴۲۸
- ۴۸۰ • جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی حقیقت ۴۲۹
- ۴۸۰ • مال و دولت کے حریص منافق ۴۳۳
- ۴۸۲ • نکتہ چین منافقوں کا مقصد ۴۳۵
- ۴۸۴ • نادان اور کوڑھ مغز کون؟ ۴۳۵
- ۴۸۵ • مسلمان باہم گفتگو میں محتاط رہا کریں ۴۴۱
- ۴۸۶ • ایک کے ہاتھ نیکوں کے کھیت دوسرے ہاتھ برائیوں کی دبا ۴۴۳
- ۴۸۸ • بدکاروں کے ماضی سے عبرت حاصل کرو ۴۴۴
- ۴۸۹ • مسلمان ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں ۴۴۵
- ۴۸۹ • مومنوں کو نیکوں کے انعامات ۴۴۵
- ۴۹۵ • دعا قبول ہوئی تو اپنا عہد بھول گیا ۴۴۸
- ۴۹۶ • منافقوں کا مومنوں کی حوصلہ شکنی کا ایک انداز ۴۵۰
- ۴۹۸ • منافق کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت ہے ۴۵۱
- ۴۹۸ • جہنم کی آگ کالی ہے ۴۵۵
- ۵۰۰ • منافقوں کا جنازہ ۴۵۷
- ۵۰۳ • منافق کی آخرت خراب ۴۶۵
- ۵۰۳ • عدم جہاد کے شرعی عذر ۴۶۹
- ۴۷۱ • غزوہ تبوک اور جہاد سے گریزاں لوگوں کو انبیاء



تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

- | | | | |
|-----|-----|-----|---|
| ۵۵۶ | ۵۰۸ | ۵۰۸ | فاسق اور چوہے کی مماثلت |
| ۵۵۸ | ۵۰۹ | ۵۰۹ | دیہات، صحرا اور شہر ہر جگہ انسانی فطرت یکساں ہے |
| ۵۵۹ | ۵۱۰ | ۵۱۰ | دعاؤں کے طلبگار ترجیح میں مبتدع نہیں |
| ۵۶۱ | ۵۱۰ | ۵۱۰ | سابقوں کو بشارت |
| ۵۶۱ | ۵۱۳ | ۵۱۳ | تساہل اور سستی سے بچو |
| ۵۶۲ | ۵۱۴ | ۵۱۴ | صدقہ مال کا تزکیہ ہے |
| ۵۶۲ | ۵۱۶ | ۵۱۶ | ایک قصہ ایک عبرت، مسجد قرار |
| ۵۶۳ | ۵۲۲ | ۵۲۲ | مومنین کی صفات |
| ۵۶۵ | ۵۲۳ | ۵۲۳ | مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی نبی اکرمؐ کو ممانعت |
| ۵۶۵ | ۵۲۴ | ۵۲۴ | تپتے صحرا شدت کی پیاس اور مجاہدین سرگرم سفر |
| ۵۶۷ | ۵۳۳ | ۵۳۳ | غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والوں کو تنبیہ |
| ۵۶۷ | ۵۳۳ | ۵۳۳ | مجاہدین کے اعمال کا بہترین بدلہ قربت الہی |
| ۵۶۸ | ۵۳۴ | ۵۳۴ | اسلامی مرکز کا استحکام اولین اصول ہے |
| ۵۶۹ | ۵۳۶ | ۵۳۶ | فرمان الہی میں شک و شبہ کفر کا مرض ہے |
| ۵۷۱ | ۵۳۷ | ۵۳۷ | رسول اکرمؐ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہیں |
| ۵۷۲ | ۵۴۰ | ۵۴۰ | عقل زدہ کا فر اور رسول اللہؐ |
| ۵۷۳ | ۵۴۰ | ۵۴۰ | تخلیق کائنات کی قرآن روداد |
| ۵۷۳ | ۵۴۱ | ۵۴۱ | قیامت کا عمل اسی تخلیق کا اعادہ ہے |
| ۵۷۴ | ۵۴۱ | ۵۴۱ | اللہ عزوجل کی عظمت و قدرت کے ثبوت مظاہر کائنات |
| ۵۷۸ | ۵۴۵ | ۵۴۵ | کفار کی بدترین جہتیں |
| ۵۸۰ | ۵۴۸ | ۵۴۸ | شرک کے آغاز کی روداد |
| ۵۸۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | احسان فراموش انسان |
| ۵۸۱ | ۵۵۱ | ۵۵۱ | دنیا را اور اس کی حقیقت |
| ۵۸۲ | ۵۵۲ | ۵۵۲ | عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی |
| ۵۸۳ | ۵۵۵ | ۵۵۵ | اللہ کی الوہیت کے منکر |
| ۵۸۴ | ۵۵۶ | ۵۵۶ | مصنوعی معبودوں کی حقیقت |
| | | | ۱۱ |
| | | | پارہ نمبر |
| | | | ۵۵۶ |
| | | | اللہ اندھیروں کی چادروں میں موجود ہر چیز کو دیکھتا ہے |


تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

۲۲۳	• انبیاء کے فرماں بردار اور جنت	۵۸۶	• ہر مخلوق کا روزی رساں اللہ
۲۲۳	• مشرکوں کا حشر	۵۸۶	• تخلیق کائنات کا تذکرہ
۲۲۴	• استقامت کی ہدایت	۵۸۸	• انسان کا نفسیاتی تجزیہ
۲۲۴	• اوقات نماز کی نشاندہی	۵۹۰	• ریابہر نیکی کے لیے زہر ہے
۲۲۷	• نیکی کی دعوت دینے والے چند لوگ	۵۹۱	• مومن کون ہیں؟
۲۲۸	• ذکر ماضی تمہارے لیے سامان سکون	۵۹۳	• عقل و ہوش اور ایمان والے لوگ
۲۲۹	• تعارف قرآن بزبان اللہ الرحمان	۵۹۵	• آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نبی؟
۲۳۱	• بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام	۵۹۷	• دعوت حق سب کے لیے یکساں ہے
۲۳۲	• یعقوب علیہ السلام کی تعمیر اور ہدایات	۵۹۷	• میرا پیغام اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے
۲۳۳	• بشارت اور نصیحت بھی	۵۹۸	• قوم نوح کا مانگا ہوا عذاب اسے ملا
۲۳۳	• یوسف علیہ السلام کے خاندان کا تعارف	۶۰۳	• نوح کی اپنے بیٹے کے لیے نجات کی دعا اور جواب
۲۳۴	• بڑے بھائی کی رائے پر اتفاق	۶۰۵	• طوفان نوح کا آخری منظر
۲۳۵	• بھائی اپنے منصوبہ میں کامیاب ہو گئے	۶۰۶	• یہ تاریخ ماضی وحی کے ذریعہ بیان کی گئی
۲۳۷	• کنویں سے بازار مصر تک	۶۰۶	• قوم ہود کی تاریخ
۲۳۹	• بازار مصر سے شاہی محل تک	۶۰۷	• قوم ہود کے مطالبات
۲۴۰	• زلیخا کی بدینتی سے الزام تک	۶۰۸	• ہود علیہ السلام کا قوم کو جواب
۲۴۰	• یوسف علیہ السلام کے تقدس کا سبب	۶۰۹	• صالح علیہ السلام اور ان کی قوم میں مکالمات
۲۴۲	• الزام کی مدافعت اور بچے کی گواہی	۶۱۰	• ابراہیم علیہ السلام کو بشارت اولاد اور فرشتوں سے گفتگو
۲۴۳	• داستان عشق اور حسینان مصر	۶۱۲	• حضرت ابراہیمؑ کی بردباری اور سفارش
۲۴۶	• جیل خانہ اور یوسف علیہ السلام	۶۱۳	• حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتوں کا نزول
۲۴۶	• جیل خانہ میں بادشاہ کے باورچی اور ساتی سے ملاقات	۶۱۴	• لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے
۲۴۷	• جیل خانہ میں خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ اور تیغ توحید	۶۱۶	• اہل مدین کی جانب حضرت شعیب کی آمد
۲۴۹	• خواب اور اس کی تعبیر	۶۱۷	• پرانے معبودوں سے دستبرداری سے انکار
۲۵۰	• تعبیر ہتا کہ بادشاہ وقت کو اپنی یاد دہانی کی تاکید	۶۱۹	• قوم مدین کا جواب اور اللہ کا عتاب
۲۵۰	• شاہ مصر کا خواب اور تلاش تعبیر میں حضرت یوسفؑ تک رسائی	۶۲۰	• قبطی قوم کا سردار فرعون اور موسیٰ علیہ السلام
۲۵۲	• تعبیر کی صداقت اور شاہ مصر کا حضرت یوسفؑ کو وزارت سونپنا	۶۲۲	• عذاب یافثہ لوگوں کی چیخیں

تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| ۷۰۶ | • کافر موت مانگیں گے | ۶۷۸ | • دعوت وحدانیت |
| ۷۰۷ | • شاداں و فرحاں لوگ | ۶۷۸ | • رسول اور نبی صرف مرد ہی ہوئے ہیں |
| ۷۰۸ | • ہر کام کا وقت مقرر ہے | ۶۷۹ | • جب مخالفت عروج پر ہو |
| ۷۱۰ | • آپ ﷺ کے انتقال کے بعد | ۶۸۱ | • عبرت و نصیحت |
| ۷۱۱ | • کافروں کے شرمناک کارنامے | ۶۸۳ | • عالم سفلی کے انواع و اقسام |
| ۷۱۱ | • رسالت کے منکر | ۶۸۵ | • عقل کے اندھے ضدی لوگ |
| ۷۱۳ | • ہر قوم کی اپنی زبان میں رسول | ۶۸۵ | • منکرین قیامت |
| ۷۱۵ | • اولاد کا قاتل | ۶۸۶ | • اعتراض برائے اعتراض |
| ۷۱۷ | • کفار اور انبیاء میں مکالمات | ۶۸۶ | • علم الہی |
| ۷۱۸ | • آل لوط | ۶۸۸ | • سب یہ محیط علم |
| ۷۲۰ | • بے سود اعمال | ۶۹۰ | • بجلی کی گرج |
| ۷۲۱ | • حیات ثانیہ | ۶۹۲ | • دعوت حق |
| ۷۲۱ | • چٹیل میدان اور مخلوقات | ۶۹۲ | • عظمت و سطوت الہی |
| ۷۲۳ | • طوطا چشم دشمن شیطان | ۶۹۳ | • اندھیرا اور روشنی |
| ۷۲۳ | • لا الہ الا اللہ کی شہادت | ۶۹۳ | • باطل بے ثبات ہے |
| ۷۲۷ | • قبر کا عذاب | ۶۹۵ | • ذوالقرنین |
| ۷۳۳ | • منافقین قریش | ۶۹۶ | • ایک سوازنہ |
| ۷۳۳ | • احسان اور احسن سلوک | ۶۹۶ | • منافع کا نفسیاتی تجزیہ |
| ۷۳۵ | • سب کچھ تمہارا مطیع ہے | ۶۹۷ | • بروج و بالا خانے |
| ۷۳۶ | • حرمت و عظمت کا مالک شہر | ۶۹۸ | • مومنین کی صفات |
| ۷۳۷ | • دوسری دعا | ۶۹۹ | • مسئلہ رزق |
| ۷۳۸ | • مناجات | ۶۹۹ | • مشرکین کے اعتراض |
| ۷۳۹ | • عذاب دیکھنے کے بعد | ۷۰۲ | • رسول اللہ ﷺ کی حوصلہ افزائی |
| ۷۴۰ | • انبیاء کی مدد | ۷۰۳ | • قرآن حکیم کی صفات جلیلہ |
| ۷۴۲ | • جکڑے ہوئے مفسدانسان | ۷۰۳ | • سچائی کا مذاق اڑانا آج بھی جاری ہے |
| ۷۴۳ | • تمام انسان اور جن پابند اطاعت ہیں | ۷۰۵ | • عالم خیر و شر |


تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| ۷۸۱ | • اللہ عزوجل کا غضب | ۷۴۷ | • سرکش و متکبر ہلاک ہوں گے |
| ۷۸۲ | • عرش سے فرش تک | ۷۴۹ | • ستارے اور شیطین |
| ۷۸۳ | • ہر چیز کا واحد مالک وہی ہے | ۷۵۰ | • اللہ تعالیٰ کے خزانے |
| ۷۸۴ | • باز پرس لازمی ہوگی | ۷۵۲ | • ابلیس لعین کا انکار |
| ۷۸۵ | • وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے | ۷۵۳ | • جنت میں کوئی بغض و کینہ نہ رہے گا |
| ۷۸۶ | • شیطان کے دوست | ۷۵۸ | • قوم لوط کی خرمستیاں |
| ۷۸۹ | • بہترین دعا | ۷۵۸ | • آل ہود کا عبرتناک انجام |
| ۷۹۰ | • مشرکین کی جہالت کا ایک انداز | ۷۵۹ | • اصحاب ایدہ کا المناک انجام |
| ۷۹۰ | • بندوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان | ۷۵۹ | • آل ثمود کی تباہیاں |
| ۷۹۱ | • توحید کی تاکید | ۷۶۰ | • نبی اکرم ﷺ کو تسلیاں |
| ۷۹۲ | • مومن اور کافر میں فرق | ۷۶۰ | • قرآن عظیم سبع مثانی اور ایک لازوال دولت |
| ۷۹۶ | • ہر امت کا گواہ اس کا نبی | ۷۶۲ | • انبیاء کی تکذیب عذاب الہی کا سبب ہے |
| ۷۹۸ | • کتاب مبین | ۷۶۳ | • روز قیامت ایک ایک چیز کا سوال ہوگا |
| ۸۰۰ | • عہد و پیمان کی حفاظت | ۷۶۳ | • رسول اللہ ﷺ کے مخالفین کا عبرتناک انجام |
| ۸۰۲ | • کتاب و سنت کے فرماں بردار | ۷۶۴ | • یقین کا مفہوم |
| ۸۰۳ | • آغوش کا مقصد | ۷۶۶ | • وحی کیا ہے؟ |
| ۸۰۴ | • سب سے زیادہ منزلت و رفعت | ۷۶۷ | • چوپائے اور انسان |
| ۸۰۸ | • صبر و استقامت | ۷۶۹ | • تقویٰ بہترین زادراہ ہے |
| ۸۰۹ | • اللہ کی عظیم نعمت بعثت نبویؐ ہے | ۷۷۰ | • سورج چاند کی گردش میں پوشیدہ فوائد |
| ۸۱۰ | • حلال و حرام صرف اللہ کی طرف سے ہیں | ۷۷۲ | • اللہ خالق کل |
| ۸۱۱ | • دوسروں سے منسوب ہر چیز حرام ہے | ۷۷۳ | • قرآن حکیم کے ارشادات کو دیرینہ کہنا کفر کی علامت ہے |
| ۸۱۱ | • جدال انبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہدایت کے امام | ۷۷۴ | • نمرود کا تذکرہ |
| ۸۱۳ | • حکمت سے مراد کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ہے | ۷۷۵ | • مشرکین کی جان کنی کا عالم |
| ۸۱۴ | • قصاص اور حصول قصاص | ۷۷۹ | • اللہ ہر چیز پر قادر ہے |
| ۸۱۵ | • ملائکہ اور مجاہدین | ۷۷۹ | • دین کی پاسبانی میں ہجرت |
| | | ۷۸۰ | • انسان اور منصب رسالت پر اختلاف |

تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست




۱۵

پارہ نمبر


۶۸	• مقام محمود کا تعارف	۵	• فضیلت سورہ بنی اسرائیل
۷۳	• حکم ہجرت	۵	• سرگزشت معراج
۷۵	• انسانی فطرت میں خیر و شر موجود ہے	۲۹	• طوفان نوح کے بعد
۷۷	• قرآن اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم	۳۱	• بہترین راہنما قرآن حکیم ہے
۸۱	• فکری مغالطے اور کفار	۳۲	• دن اور رات کے فوائد
۸۲	• میدان حشر کا ایک ہولناک منظر	۳۳	• اچھے یا برے اعمال انسان کے اپنے لیے ہیں
۸۳	• انسانی فطرت کا نفسیاتی تجزیہ	۴۰	• طالب دنیا کی چاہت
۸۷	• قرآن کریم کی صفات عالیہ	۴۱	• حق دار کو حق دیا جاتا ہے
۸۸	• رحمن یا رحیم؟	۴۳	• گناہ اور استغفار
۹۱	• مشرکین کے سوالات	۴۳	• ماں باپ سے حسن سلوک کی تاکید
۹۳	• اصحاب کہف کا قصہ	۴۵	• سپاہِ رومی کی تعلیم
۹۶	• غار اور سورج کی شعائیں	۴۶	• قتل اولاد کی مذمت
۹۸	• موت کے بعد زندگی	۴۶	• کبیرہ گناہوں سے ممانعت
۱۰۱	• اصحاب کہف کی تعداد	۴۷	• ناحق قتل
۱۰۲	• اصحاب کہف کتنا سونے؟	۴۸	• یتیم کا مال
۱۰۵	• جہنم کی دیواریں	۴۹	• بلا تحقیق فیصلہ نہ کرو
۱۰۵	• سونے کے گنگن اور ریشمی لباس	۴۹	• تکبر کے ساتھ چلنے کی ممانعت
۱۰۷	• احسان فراموشی مترادف کفر ہے	۵۰	• ذلیل کن عادتیں
۱۱۲	• سب کے سب میدان حشر میں	۵۳	• کفار کا ایک نفسیاتی تجزیہ
۱۱۵	• اللہ کے سوا سب ہی بے اختیار ہیں	۵۷	• افضل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام
۱۱۵	• مشرک قیامت کو شرمندہ ہوں گے	۵۷	• وسیلہ یا قرب الہی
۱۱۷	• عذاب الہی کے منتظر کفار	۶۰	• مقصد معراج
۱۱۸	• بدترین شخص کون ہے؟	۶۱	• اہلیس کی قدیمی دشمنی
۱۱۸	• حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا ایک بندہ	۶۳	• سمندر ہو یا صحرا ہر جگہ اسی کا اقتدار ہے
۱۲۳	• شوقِ تعلیم و تعلم	۶۶	• وطنی عصبیت اور یہودی
۱۲۵	• حکمت الہی کے مظاہر	۶۷	• اوقاتِ صلوٰۃ کی نشاندہی

تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

۱۸۴	• اللہ تعالیٰ کا امین فرشتہ	۱۲۸	• موسیٰ علیہ السلام کی بے صبری
۱۸۵	• علم قرآن سب سے بڑی دولت ہے	۱۲۹	• اللہ کی مصیبتوں کی وضاحت
۱۸۸	• اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی	۱۳۰	• اللہ کی حفاظت کا ایک انداز
۱۹۰	• لائٹس اڑدھا بن گئی	۱۳۴	• ذوالقرنین کا تعارف
۱۹۱	• معجزات کی نوعیت	۱۳۵	• ایک وحشی صفت بستی
۱۹۴	• موسیٰ علیہ السلام کا بچپن	۱۳۶	• یاجوج اور ماجوج
۱۹۵	• اللہ تعالیٰ کی تدابیر اعلیٰ اور محروم ہدایت فرعون	۱۴۱	• عبادت و اطاعت کا طریقہ
۲۰۰	• فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیاں	۱۴۲	• حلت الفردوس کا تعارف
۲۰۴	• اللہ کے سامنے اظہار بے بسی	۱۴۳	• سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم
۲۰۷	• اللہ رب العزت کا تعارف	۱۴۶	• دعا اور قبولیت
۲۰۸	• فرعون کے ساحر اور موسیٰ علیہ السلام	۱۴۹	• تشفی قلب کے لیے ایک اور مانگ
۲۱۱	• نتیجہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا گواہ بنا	۱۹	• پیدائش یحییٰ علیہ السلام
۲۱۴	• ایمان یافتہ جادوگروں پر فرعون کا عتاب	۱۵۰	• ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر اللہ تعالیٰ
۲۱۴	• بنی اسرائیل کی ہجرت اور فرعون کا تعاقب	۱۵۱	• حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
۲۱۵	• بنی اسرائیل کا دریا پار جانا	۱۵۵	• مریم علیہا السلام اور معجزات
۲۱۶	• موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر شرک	۱۵۶	• تقدس مریم اور عوام
۲۱۸	• گائے پرست سامری اور چھڑا	۱۶۱	• قیامت کا دن دوزخیوں کے لیے یوم حسرت
۲۲۰	• سب سے اعلیٰ کتاب	۱۶۳	• باپ کی ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی
۲۲۰	• صور کیا ہے؟	۱۶۷	• حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف
۲۲۱	• پہاڑوں کا کیا ہوگا؟	۱۶۸	• انبیاء کی جماعت کا ذکر
۲۲۲	• نوعیت شفاعت اور روز قیامت	۱۷۲	• جبرئیل علیہ السلام کی آمد میں تاخیر کیوں؟
۲۲۴	• انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟	۱۷۳	• منکرین قیامت کی سوچ
۲۲۷	• دنیا کی سزائیں	۱۷۷	• کثرت مال فریب زندگی
۲۲۷	• دیرانوں سے عبرت حاصل کرو	۱۷۸	• مشرکوں سے مبالغہ
۲۳۰	• قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ	۱۷۹	• اللہ تعالیٰ کے سوا معبود
		۱۸۲	• عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف





تفسیر ابن کثیر

چند اہم مضامین کی فہرست

- ۲۷۶ • دعوت تقویٰ ۲۳۲ • قیامت سے غافل انسان
- ۲۸۰ • پہلی پیدائش دوسری پیدائش کی دلیل ۲۳۵ • مشرکین مکہ رسول اللہ ﷺ کی بشریت کے منکر تھے
- ۲۸۳ • شک کے مارے لوگ ۲۳۶ • قدر ناشناس لوگ
- ۲۸۴ • یقین کے مالک لوگ ۲۳۷ • آسمان وزمین کوئی کھیل تماشہ نہیں
- ۲۸۴ • مخالفین نبی ﷺ ہلاک ہوں ۲۳۷ • فرشتوں کا تذکرہ
- ۲۸۵ • مختلف مذاہب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا ۲۳۸ • سب تمہوں سے بلند اللہ جل شانہ
- ۲۸۵ • چاند سورج ستارے سب سجدہ ریز ۲۳۲ • خضر علیہ السلام مر چکے ہیں
- ۲۸۸ • جنت کے محلات و باغات ۲۳۳ • جلد باز انسان
- ۲۸۹ • مسجد الحرام سے روکنے والے ۲۳۴ • خود عذاب کے طالب لوگ
- ۲۹۱ • مسجد حرام کی اولین بنیاد تو حید ہے ۲۳۴ • انبیاء کی تکذیب کافروں کا شیوہ ہے
- ۲۹۲ • دنیا اور آخرت کے فائدے ۲۳۸ • یہودی روایتوں سے بچو
- ۲۹۴ • احکام حج ۲۳۹ • کفر سے بیزاری طبیعت میں اضمحلال پیدا کرتی ہے
- ۲۹۵ • بت پرستی کی گندگی سے دور رہو ۲۵۱ • آگ گلستان بن گئی
- ۲۹۶ • قربانی کے جانور اور حجاج ۲۵۳ • ہجرت خلیل اللہ علیہ السلام
- ۲۹۹ • شعائر اللہ کیا ہیں؟ ۲۵۴ • نوح علیہ السلام کی دعا
- ۳۰۱ • قربانی پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو ۳۰۱ • ایک ہی مقدمہ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے مختلف فیصلے
- ۳۰۳ • حکم جہاد صادر ہوا ۲۵۵ • آرزائش اور مصائب ایوب علیہ السلام
- ۳۰۹ • اطاعت الہی سے روکنے والوں کا حشر ۲۵۸ • ذوالکفل نبی نہیں بزرگ تھے
- ۳۱۲ • کافروں کے دل سے شک و شبہ نہیں جائے گا ۲۶۲ • یونس علیہ السلام اور ان کی امت
- ۳۱۳ • اللہ تعالیٰ کا بہترین رزق پانے والے لوگ ۲۶۳ • استغفار مومو جب نجات ہے
- ۳۱۶ • مناسک کے معنی ۲۶۴ • دعا اور بڑھاپے میں اولاد
- ۳۱۷ • کمال علم رب کی شان ۲۶۶ • تمام شریعتوں کی روح تو حید
- ۳۱۷ • شیطان کی تقلید ۲۶۷ • یافث کی اولاد
- ۳۱۹ • منصب نبوت کا حقدار کون؟ ۲۶۸ • اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں تمام کائنات
- ۳۲۰ • سورہ حج کو دو سجدوں کی فضیلت حاصل ہے ۲۷۳ • جلد یاد برحق غالب ہوگا
- ۳۲۰ • امت مسلمہ کو سابقہ امتوں پر فضیلت ۲۷۶


تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| ۳۶۱ | • لعان سے مراد | ۳۲۴ | • دس آیتیں اور جنت کی ضمانت |
| ۳۶۴ | • ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ کی پاکیزگی کی شہادت | ۳۲۵ | • مومنوں کے اوصاف |
| ۳۷۰ | • اخلاق و آداب کی تعلیم | ۳۲۷ | • انسان کی پیدائش مرحلہ وار |
| ۳۷۲ | • برائی کی تشبیہ نہ کرو | ۳۲۹ | • آسمان کی پیدائش مرحلہ وار |
| ۳۷۳ | • شیطانی راہوں پر مت چلو | ۳۳۰ | • آسمان سے نزول بارش |
| ۳۷۴ | • دولت مند افراد سے خطاب | ۳۳۱ | • نوح علیہ السلام اور منکبر وڈیرے |
| ۳۷۵ | • ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ کے گستاخ پر اللہ کی لعنت | ۳۳۳ | • عاد و ثمود کا تذکرہ |
| ۳۷۵ | • اعضاء کی گواہی | ۳۳۵ | • دریا برد فرعون |
| ۳۷۶ | • بھلی بات کے حق دار بھلے لگو ہی ہیں | ۳۳۶ | • ربوہ کے معنی |
| ۳۷۷ | • شرعی آداب | ۳۳۶ | • اکل حلال کی فضیلت |
| ۳۸۱ | • حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالو | ۳۳۸ | • مومن کی تعریف |
| ۳۸۲ | • مومنہ عورتوں کو تاکید | ۳۳۹ | • آسان شریعت |
| ۳۸۵ | • نکاح اور شرم و حیا کی تعلیم | ۳۴۰ | • قرآن کریم سے فرار |
| ۳۸۹ | • مدبر کائنات نور ہی نور ہے | ۳۴۳ | • جرائم کی سزا پانے کے باوجود نیک نہ بن سکے |
| ۴۰۳ | • عروج اسلام لازم ہے | ۴۳۵ | • اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے |
| ۴۰۶ | • صلوة اور حسن سلوک کی ہدایات | ۴۳۷ | • وہ ہر شان میں بے مثال ہے |
| ۴۰۷ | • گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں | ۴۳۸ | • برائی کے بدلے اچھائی |
| ۴۰۹ | • جہاد میں شمولیت کی شرائط | ۴۳۸ | • شیطان سے بچنے کی دعائیں |
| ۴۱۲ | • رخصت پر بھی اجازت مانگو | ۴۳۹ | • بعد از مرگ |
| ۴۱۲ | • آپ ﷺ کو پکارنے کے آداب | ۴۵۰ | • قبروں سے اٹھنے کے بعد |
| ۴۱۳ | • ہر ایک اس کے علم میں ہے | ۴۵۱ | • مکمل آگاہی کے بعد بھی محروم ہدایت |
| ۴۱۵ | • مشرکوں کی جہالت | ۴۵۳ | • مختصر زندگی طویل گناہ |
| ۴۱۶ | • خود فریب مشرک | ۴۵۵ | • دلائل کے ساتھ مشرک کا موحد ہونا |
| ۴۱۷ | • مشرکین کی حماقتیں | ۴۵۶ | • مسئلہ رجم |
| ۴۲۰ | • ابدی لذتیں اور سرتیں | ۴۵۸ | • زانی اور زانیہ اور اخلاقی مجرم |
| ۴۲۱ | • عیسیٰ علیہ السلام سے سوالات | ۴۶۰ | • تہمت لگانے والے مجرم |


تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست



۴۶۵	• تذکرہ نوح علیہ السلام	۴۲۴	• تصدیق نبوت کے لیے احمقانہ شرائط
۴۶۵	• ہود علیہ السلام اور ان کی قوم	۴۲۷	• فیصلوں کا دن
۴۶۷	• موثر بیانات بھی بے اثر	۴۲۹	• شکایت نبوی ﷺ
۴۶۸	• صالح علیہ السلام اور قوم ثمود	۴۳۰	• قرآن حکیم مختلف اوقات میں کیوں اترتا؟
۴۶۹	• صالح علیہ السلام کی باغی قوم	۴۳۱	• انبیاء سے دشمنی کا خمیازہ
۴۷۱	• لوط علیہ السلام اور ان کی قوم	۴۳۳	• انبیاء کا مذاق
۴۷۱	• ہم جنس پرستی کا شکار	۴۳۳	• اگر وہ چاہے تو رات دن میں نہ بدلے
۴۷۲	• شعیب علیہ السلام	۴۳۵	• النبی کل عالم علیہ السلام
۴۷۳	• ڈنڈی مار قوم	۴۳۷	• آبائی گمراہی
۴۷۳	• مشرکین کی وہی حماقتیں	۴۳۹	• اللہ تعالیٰ کی رفعت و عظمت
۴۷۵	• مبارک کتاب	۴۴۰	• مومنوں کا کردار
۴۷۵	• بشارت و تصدیق یافتہ کتاب	۴۴۲	• سب سے بڑا گناہ؟
۴۷۶	• کفر و انکار	۴۴۵	• عباد الرحمن کے اوصاف
۴۷۷	• یہ کتاب عزیز	۴۴۷	• مومنوں کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے انعامات
۴۷۸	• مستحق سزا لوگوں سے الگ ہو جاؤ	۴۴۸	• تعارف قرآن حکیم
۴۸۲	• شیاطین اور جادوگر	۴۵۰	• موسیٰ علیہ اور اللہ جل شانہ کے مکالمات
۴۸۷	• آگ لینے گئے رسالت مل گئی	۴۵۳	• فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مباحثہ
۴۸۹	• حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام پر خصوصی انعامات	۴۵۴	• مناظرہ کے بعد مقابلہ
۴۹۲	• بد بد کی غیر حاضری	۴۵۵	• جرات و ہمت والے کامل ایمان لوگ
۴۹۴	• تحقیق شروع ہو گئی	۴۵۷	• فرعونوں کا انجام
۴۹۵	• بقیس کو خط ملا	۴۵۸	• فرعون اور اس کا لشکر غرق دریا ہو گیا
۴۹۷	• بقیس کو دو بارہ پیغام نبوت ملا	۴۵۹	• ابراہیم علیہ السلام علامت توحید پرستی
۴۹۹	• بقیس کا تخت آنے کے بعد	۴۶۱	• حکم سے کیا مراد ہے؟
۵۰۱	• صالح علیہ السلام کی ضدی قوم	۴۶۲	• نیک لوگ اور جنت
۵۰۲	• اونٹنی کو مار ڈالا	۴۶۴	• بت پرستی کا آغاز
۵۰۴	• ہم جنسوں سے جنسی تعلق (نتیجہ ایڈز)	۴۶۴	• ہدایت طبقاتی عصمت سے پاک ہے




چند اہم مضامین کی فہرست


تفسیر ابن کثیر

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--|
| ۵۳۹ | • کہاں ہیں تمہارے بت | ۵۰۹ | • کائنات کے مظاہر اللہ تعالیٰ کی صداقت |
| ۵۵۱ | • صفات الہی | ۵۱۲ | • ستاروں کے فوائد |
| ۵۵۳ | • افترا بندی چھوڑ دو | ۵۱۳ | • قدرت کاملہ کا ثبوت |
| ۵۵۳ | • قارون | ۵۱۳ | • اللہ کے سوا کوئی غیب داں نہیں |
| ۵۵۴ | • اپنی عقل و دانش پہ مغرور قارون | ۵۱۵ | • حیات ثانی کے منکر |
| ۵۵۵ | • سامان تقیہ کی فراوانی | ۵۱۶ | • قیامت کے منکر |
| ۵۵۶ | • ایک بالشت کا آدمی؟ | ۵۱۶ | • حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا |
| ۵۵۷ | • جنت اور آخرت | ۵۱۷ | • وابستہ الارض |
| ۵۵۸ | • جو کرو گے سو بھرو گے | ۵۱۹ | • باز پرس کے لمحات |
| ۵۶۰ | • امتحان اور مومن | ۵۲۰ | • جب صور پھونکا جائے گا |
| ۵۶۱ | • نیکیوں کی کوشش | ۵۲۲ | • اللہ تعالیٰ کا حکم اعلان |
| ۵۶۲ | • انسان کا وجود | ۵۲۳ | • بچوں کا قتل اور بنی اسرائیل |
| ۵۶۳ | • مرتد ہونے والے | ۵۲۶ | • جسے اللہ رکھے اسے کون چلھے؟ |
| ۵۶۳ | • گناہ کسی کا اور سزا دوسرے کو | ۵۲۸ | • گھونے سے موت |
| ۵۶۳ | • نبی اکرم ﷺ کی حوصلہ افزائی | ۵۲۹ | • جسے بچایا اسی نے راز کھولا |
| ۵۶۶ | • ریا کاری سے بچو | ۵۳۰ | • گمنام ہمدرد |
| ۵۶۷ | • تمام نشانیوں | ۵۳۰ | • موسیٰ علیہ السلام کا فرار |
| ۵۶۸ | • عقلی اور نقلی دلائل | ۵۳۱ | • حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہما السلام کا معاہدہ |
| ۵۶۹ | • حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ | ۵۳۲ | • دس سال حق مہر |
| ۵۷۱ | • سب سے خراب عادت | ۵۳۶ | • یاد ماضی |
| ۵۷۱ | • فرشتوں کی آمد | ۵۳۸ | • فرعون کی قوم کا رویہ |
| ۵۷۳ | • فساد نہ کرو | ۵۴۰ | • دلیل نبوت |
| ۵۷۳ | • احناف کے لوگ | ۵۴۳ | • اہل کتاب علماء |
| ۵۷۳ | • مکڑی کا جالا | ۵۴۶ | • ہدایت صرف اللہ کے ذمہ ہے |
| ۵۷۵ | • مقصد کائنات | ۵۴۷ | • اہل مکہ کو تنبیہ |
| | | ۵۴۸ | • دنیا اور آخرت کا تقابلی جائزہ |

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست



- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| ۶۱۷ | • حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں؟ | ۵۷۸ | • اخلاص خوف اور اللہ کا ذکر |
| ۶۱۹ | • حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیحت و وصیت | ۵۷۹ | • غیر مسلموں کو دلائل سے قائل کرو |
| ۶۲۱ | • قیامت کے دن اعلیٰ اخلاق کام آئے گا | ۵۸۰ | • حق تلاوت |
| ۶۲۷ | • انعام و اکرام کی بارش | ۵۸۳ | • محاسن کلام کا بے مثال جمال قرآن حکیم |
| ۶۲۸ | • حاکم اعلیٰ وہ اللہ ہے | ۵۸۴ | • موت کے بعد کفار کو عذاب اور مومنوں کو جنت |
| ۶۳۰ | • اس کے سامنے ہر چیز حقیر و پست ہے | ۵۸۵ | • مہاجرین کے لیے انعامات الہی |
| ۶۳۱ | • طوفان میں کون یاد آتا ہے | ۵۸۷ | • توحید ربوبیت تو حید الوہیت |
| ۶۳۱ | • اللہ تعالیٰ کے رو برو کیا ہوگا | ۵۸۸ | • جب عکرمہ طوفان میں گھر گئے |
| ۶۳۲ | • غیب کی پانچ باتیں | ۵۹۰ | • معرکہ روم و فارس کا انجام |
| ۶۳۴ | • ہر ایک کی ٹیبل اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے | ۵۹۶ | • کائنات کا ہر ذرہ دعوتِ فکر دیتا ہے |
| ۶۳۵ | • بہترین خالق بہترین مصور و مدور | ۵۹۷ | • اعمال کے مطابق فیصلے |
| ۶۳۷ | • انسان اور فرشتوں کا ساتھ | ۵۹۸ | • خالق کل مقتدر کل ہے |
| ۶۳۸ | • ایمان دار وہی ہے جس کے اعمال تابع قرآن ہوں! | ۶۰۰ | • یہ رنگ بیز بائیں اور وسیع تر کائنات |
| ۶۴۱ | • نیک و بد دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے | ۶۰۱ | • قیام ارض و سما |
| ۶۴۲ | • شب معراج اور نبی اکرم ﷺ | ۶۰۳ | • بچہ اور ماں باپ |
| ۶۴۲ | • دریائے نیل کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط | ۶۰۶ | • انسان کی مختلف حالتیں |
| ۶۴۵ | • نافرمان اپنی بربادی کو آپ بلاوا دیتا ہے | ۶۰۷ | • صلہ رحمی کی تاکید |
| ۶۴۹ | • تکمیل ایمان کی ضروری شرط | ۶۰۸ | • زمین کی اصلاح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مضمر ہے |
| ۶۵۱ | • میثاق انبیاء | ۶۰۹ | • اللہ کے دین میں مستحکم ہو جاؤ |
| ۶۵۲ | • غزوہ خندق اور مسلمانوں کی خستہ حالی | ۶۰۹ | • مسلمان بھائی کی اعانت پر جہنم سے نجات کا وعدہ |
| ۶۵۶ | • منافقوں کا فرار | ۶۱۱ | • مسئلہ سماع موتی |
| ۶۵۸ | • جہاد سے منہ موڑنے والے ایمان سے خالی لوگ | ۶۱۲ | • پیدائش انسان کی مرحلہ وار روداد |
| ۶۵۹ | • ٹھوس دلائل اتباع رسول کو لازم قرار دیتے ہیں | ۶۱۳ | • واپسی ناممکن ہوگی |
| ۶۶۲ | • اللہ عزوجل کفار سے خود نپٹے | ۶۱۳ | • نماز مقتدری اور امام کا تعلق |
| ۶۶۳ | • کفار نے عین موقع پر دھوکہ دیا | ۶۱۵ | • لہو و لعب موسیقی اور نغمہ باتیں |
| ۶۶۸ | • امہات المؤمنین سب سے معزز قرار دے دی گئیں | ۶۱۶ | • اللہ تعالیٰ کے وعدے ٹلنے نہیں |

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---|
| ۷۲۷ | • وحدہ لا شریک | ۶۷۰ | • ارشادات الہی کی روشنی میں اسوۂ امہات المؤمنین |
| ۷۲۹ | • اللہ عزوجل کی صفات | ۶۷۵ | • اسلام اور ایمان میں فرق اور ذکر الہی |
| ۷۳۰ | • تمام اقوام کے لیے نبوت | ۶۷۷ | • حضور ﷺ کے پیغام کو رد کرنا گناہ عظیم ہے |
| ۷۳۲ | • کافروں کی سرکشی | ۶۷۹ | • عظمت زید بن حارثہ |
| ۷۳۳ | • نبی اکرم ﷺ کے لیے تسلیاں | ۶۸۲ | • بہترین دعا |
| ۷۳۶ | • مشرکین سے سوال | ۶۸۶ | • تورات میں نبی اکرم ﷺ کی صفات |
| ۷۳۶ | • کافر عذاب الہی کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ | ۶۸۷ | • نکاح کی حقیقت |
| ۷۳۷ | • ضد اور بہت دھری کفار کا شیوہ | ۶۸۹ | • حق مہر اور بصورت علیحدگی کے احکامات |
| ۷۳۸ | • مشرکین کو دعوت اصلاح | ۶۹۱ | • روایات و احکامات |
| ۷۳۹ | • عذاب قیامت اور کافر | ۶۹۲ | • ازواج مطہرات کا عہد وفا |
| ۷۴۳ | • مایوسی کی ممانعت | ۶۹۳ | • احکامات پردہ |
| ۷۴۵ | • موت کے بعد زندگی | ۶۹۷ | • پردہ کی تفصیلات |
| ۷۴۸ | • قدرت الہی | ۶۹۸ | • صلوة و سلام کی فضیلت |
| ۷۴۹ | • اللہ قادر مطلق | ۷۰۶ | • ملعون و معذب لوگ |
| ۷۵۱ | • رب کی قدر تیں | ۷۰۷ | • تمام دنیا کی عورتوں سے بہتر و افضل کون؟ |
| ۷۵۳ | • کتاب اللہ کی تلاوت کے فضائل | ۷۰۸ | • قیامت قریب تر سمجھو |
| ۷۵۴ | • عظمت قرآن کریم اور ملت بیضا | ۷۰۹ | • موسیٰ علیہ السلام کا مزاج |
| ۷۵۷ | • برے لوگوں کا روح فرساحال | ۷۱۱ | • تقویٰ کی ہدایت |
| ۷۵۹ | • وسیع العلم اللہ تعالیٰ کا فرمان | ۷۱۱ | • فرائض حدود و امانت ہیں |
| ۷۶۱ | • قسمیں کھا کر مکرنے والے ظالم | ۷۱۳ | • اوصاف الہی |
| ۷۶۲ | • عبرت ناک مناظر سے سبق لو | ۷۱۵ | • قیامت آ کر رہے گی |
| ۷۶۳ | • صراط مستقیم کی وضاحت | ۷۱۷ | • حضرت داود پر انعامات الہی |
| ۷۶۳ | • شب ہجرت اور کفار کے سرخاک | ۷۱۹ | • اللہ کی نعمتیں اور سلیمان علیہ السلام |
| ۷۶۷ | • ایک قصہ پارینہ | ۷۲۰ | • حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات |
| ۷۶۸ | • انبیاء و رسل سے کافروں کا رویہ | ۷۲۲ | • قوم سبا کا تفصیلی تذکرہ |
| ۷۶۹ | • مبلغ حق شہید کر دیا | ۷۲۷ | • ایلیس اور اس کا عزم |


تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

۴۷	• حضرت موسیٰ پر انعامات الہی	۵	• راہ حق کا شہید
۴۸	• حضرت الیاس علیہ السلام	۶	• ظالموں کے لیے عذاب الہی
۴۹	• قوم لوط علیہ السلام ایک عبرت کا مقام	۸	• منکرین کی ندامت
۴۹	• واقعہ حضرت یونس علیہ السلام	۹	• وجود باری تعالیٰ کی ایک نشانی
۵۲	• مشرکین کا اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہر معیار	۱۰	• گردش شمس و قمر
۵۳	• فرشتوں کے اوصاف	۱۲	• سمندر کی تسخیر
۵۴	• عذاب الہی آ کر رہے گا	۱۳	• کفار کا تکبر
۵۵	• اللہ تعالیٰ مشرکین کے بہتانات سے مبرا ہے	۱۴	• قیامت کے بعد کوئی مہلت نہ ملے گی
۵۷	• مشرکین کا نبی اکرمؐ پر تعجب	۱۵	• جنت کے مناظر
۶۰	• حضرت داؤد علیہ السلام کی فراست	۱۷	• نیک و بد علیحدہ علیحدہ کر دیئے جائیں گے
۶۳	• صاحب اختیار لوگوں کے لیے انصاف کا حکم	۱۷	• اعضاء کی گواہی
۶۵	• حضرت سلیمانؑ حضرت داؤدؑ کے وارث	۱۹	• شاعری پیغمبرانہ شان کے منافی
۶۶	• سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ	۲۲	• چوپائیوں کے فوائد
۷۲	• حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کا صبر	۲۲	• نفع و نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟
۷۵	• صالحین کے لیے اجر	۲۳	• موت کے بعد زندگی
۷۵	• اہل نار کے احوال	۲۴	• اللہ ہر چیز پر قادر
۷۷	• نبی علیہ السلام کا خواب	۲۶	• فرشتوں کا تذکرہ
۷۸	• تخلیق آدم اور ابلیس کی سرکشی	۲۷	• شیاطین اور کابن
۸۰	• باطل عقائد کی تردید	۳۰	• دو زخیوں کا اپنے بزرگوں سے شکوہ
۸۲	• تخلیق کائنات اور عقیدہ توحید	۳۲	• متقیوں کے لیے نجات اور انعامات
۸۳	• مشرک اور موحد برابری نہیں	۳۶	• زقوم اور طوبی
۸۵	• ہر حال میں اللہ کی اطاعت لازمی ہے	۳۸	• سابقہ امتیں
۸۶	• نیک اعمال کے حامل لوگوں کے لیے محلات	۳۸	• نیک لوگوں کے نام زندہ رہتے ہیں
۸۸	• زندگی کی بہترین مثال	۳۹	• اب بھی سنبھل جاؤ
۸۸	• قرآن حکیم کی تاثیر	۴۰	• بنگلہ آذر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
۹۰	• فیصلے روز قیامت کو ہوں گے	۴۱	• ذبح اللہ کی بحث اور یہودی روایات


تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| ۱۴۱ | • انسان کی دوبارہ پیدائش کے دلائل | ۹۴ | • مشرکین کی سزا اور موحدین کی جزا |
| ۱۴۱ | • دعا کی ہدایت اور قبولیت کا وعدہ | ۹۵ | • بھروسہ کے لائق صرف اللہ عزوجل کی ذات ہے |
| ۱۴۳ | • احسانات و انعامات کا تذکرہ | ۹۶ | • نیند اور موت کے وقت ارواح کا قبض کرنا |
| ۱۴۴ | • رسول اللہ کی مشرکین کو دعوت توحید | ۹۸ | • مشرکین کی مذمت |
| ۱۴۵ | • کفار کو عذاب جہنم اور طوق و سلاسل کی وعید | ۹۸ | • صبح و شام کے بعض وظائف |
| ۱۴۷ | • اللہ کے وعدے قطعاً حق ہیں | ۱۰۰ | • انسان کا ناشکر اپن |
| ۱۴۸ | • ہر مخلوق خالق کائنات پر دلیل ہے | ۱۰۱ | • تو یہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ |
| ۱۴۸ | • نزول عذاب کے وقت کا ایمان بے فائدہ ہے | ۱۰۵ | • مشرکین کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے |
| ۱۴۹ | • ہر معجز قرآن کے باوجود ہدایت نہ پائی | ۱۰۷ | • زمین و آسمان اللہ کی انگلیوں میں |
| ۱۵۲ | • حصول نجات اور اتباع رسول ﷺ | ۱۰۸ | • قیامت کی ہولناکی کا بیان |
| ۱۵۳ | • تخلیق کائنات کا مرحلہ وار ذکر | ۱۱۰ | • کفار کی آخری منزل |
| ۱۵۶ | • انبیاء کی تکذیب عذاب الہی کا سبب | ۱۱۲ | • متقیوں کی آخری منزل |
| ۱۵۸ | • انسان اپنا دشمن آپ ہے | ۱۱۵ | • قیامت کے دن انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا |
| ۱۶۰ | • آداب قرآن حکیم | ۱۱۸ | • انبیاء کی تکذیب کافروں کا شیوہ ہے |
| ۱۶۲ | • استقامت اور اس کا انجام | ۱۱۹ | • اللہ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے پر مامور فرشتے |
| ۱۶۴ | • اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان | ۱۲۲ | • کفار کی دوبارہ زندگی کی لا حاصل آرزو |
| ۱۶۶ | • مخلوق کو نہیں خالق کو سجدہ کرو | ۱۲۴ | • روز قیامت سب اللہ کے سامنے ہوں گے |
| ۱۶۷ | • عذاب و ثواب نہ ہوتا تو عمل نہ ہوتا | ۱۲۵ | • اللہ علیم پر ہر چیز ظاہر ہے |
| ۱۶۸ | • قرآن کو جھٹلانے والے لشکی ہیں | ۱۲۷ | • فرعون کا بدترین حکم |
| ۱۶۹ | • ناکردہ گناہ سزا نہیں پاتا | ۱۲۸ | • ایک مرد مومن کی فرعون کو نصیحت |
| | | ۱۳۱ | • مرد مومن کی اپنی قوم کو نصیحت |
| | | ۱۳۳ | • فرعون کی سرکشی اور تکبر |
| | | ۱۳۳ | • قوم فرعون کے مرد مومن کی سہ بارہ نصیحت |
| | | ۱۳۴ | • عالم برزخ میں عذاب پر دلیل |
| | | ۱۳۷ | • دوزخیوں کے لیے ایک اور عذاب |
| | | ۱۳۸ | • رسولوں اور اہل ایمان کو دنیا و آخرت میں مدد کی بشارت |

تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست

۲۱۳	• قیامت کے قریب نزول عیسیٰ علیہ السلام	۱۷۲	• علم الہی کی وسعتیں
۲۱۸	• جنت میں --- جنت کے حقدار	۱۷۳	• انسان کی سرکشی کا حال
۲۱۹	• جنت کی نعمتیں	۱۷۴	• قرآن کریم کی حقانیت کے بعض دلائل
۲۲۰	• دوزخ اور دوزخیوں کی درگت	۱۷۵	• حم عشق کی تفسیر
۲۲۳	• اللہ کی چند صفات	۱۷۷	• قیامت کا آنا یقینی ہے
۲۲۳	• مشرکین کی کم عقلی	۱۷۹	• مشرکین کا شرک
۲۲۴	• عظیم الشان قرآن کریم کا نزول اور ماہ شعبان	۱۸۰	• امت محمدیہ پر شریعت الہی کا انعام
۲۲۵	• دھواں ہی دھواں اور کفار	۱۸۱	• تمام انبیاء کرام کی شریعت یکساں ہے
۲۲۷	• روزہ آخرت توبہ نہیں	۱۸۲	• منکرین قیامت کے لیے وعیدیں
۲۲۹	• قبطیوں کا انجام	۱۸۳	• غفور و رحیم اللہ
۲۳۲	• شہنشاہ تیج کی کہانی	۱۸۵	• رسول اللہ سے قربت داری کی فضیلت
۲۳۴	• صور پھونکنے کے بعد	۱۸۹	• توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ
۲۳۵	• زقوم ابو جہل کی خوراک ہوگا	۱۹۱	• آفات اور تکالیف سے خطاؤں کی معافی ہوتی ہے
۲۳۶	• جب موت کو ذبح کرایا جائے گا	۱۹۲	• سمندروں کی تسخیر قدرت الہی کی نشانی
۲۳۹	• قرآن عظیم کو اہانت سے بچاؤ	۱۹۳	• درگزر کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہے
۲۴۰	• اللہ تعالیٰ کے ابن آدم پر احسانات	۱۹۷	• اللہ تعالیٰ کو کوئی بوجھنے والا نہیں
۲۴۱	• بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کا تذکرہ	۱۹۸	• آسانی میں شکرنگی میں صبر مومنوں کی صفت ہے
۲۴۲	• اصل دین چار چیزیں ہیں	۱۹۹	• اولاد کا اختیار اللہ کے پاس ہے
۲۴۳	• زمانے کو گالی مت دو	۱۹۹	• قرآن حکیم شفا ہے
۲۴۴	• اس دن ہر شخص گھٹنوں کے مل گرا ہوگا	۲۰۳	• اصلی زادراہ تقویٰ ہے
۲۴۵	• کبریائی اللہ عزوجل کی چادر ہے	۲۰۴	• مشرکین کا بدترین فعل
		۲۰۷	• امام الموحدین کا ذکر اور دنیا کی قیمت
		۲۰۹	• شیطان سے بچو
		۲۱۲	• فلا باز بنی اسرائیل
		۲۱۳	• فرعون کے دعوے

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست



- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| ۳۲۳ | • آداب خطاب | ۲۵۲ | • نبی اکرم ﷺ کا اظہار بے بسی |
| ۳۲۵ | • فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرو | ۲۵۳ | • تابع قرآن جنتیوں کے حالات |
| | • دو متحارب ”مسلمان جماعتوں“ میں صلح کرانا ہر مسلمان کا | ۲۵۵ | • والدین سے بہترین سلوک کرو |
| ۳۲۸ | • فرض ہے | ۲۵۸ | • اس دنیا کے طالب آخرت میں محروم ہوں گے |
| ۳۳۰ | • ہر طعنہ باز عیب جو مجرم ہے | ۲۶۱ | • قوم عاد کی تباہی کے اسباب |
| ۳۳۰ | • دہشت گرد اور ہراس پھیلانے والے ناپسندیدہ لوگ | ۲۶۲ | • مغضوب شدہ قوموں کی نشاندہی |
| ۳۳۲ | • نسل انسانی کا نکتہ آغاز | ۲۶۵ | • طائف سے واپسی پر جنات نے کلام الہی سنا، شیطان بوکھلایا |
| ۳۳۶ | • ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنا جائزہ تو لیں | ۲۷۳ | • ایمان دار جنوں کی آخری منزل |
| ۳۴۰ | • اہل کتاب کی موضوع روایتیں | ۲۷۷ | • جب کفار سے میدان جہاد میں آنا سنا منا ہو جائے |
| ۳۴۲ | • اللہ کے محیر العقول شاہکار | ۲۸۰ | • تمام شہروں سے پیارا شہر |
| ۳۴۳ | • ان کو شامت اعمال ہی پسند تھی | ۲۸۲ | • دودھ پانی اور شہد کے سمندر |
| ۳۴۴ | • دائیں اور بائیں دو فرشتے | ۲۸۳ | • بے وقوف، کند ذہن اور جاہل |
| ۳۴۷ | • ہمارے اعمال کے گواہ | ۲۸۵ | • ایمان کی دلیل حکم جہاد کی تعمیل ہے |
| ۳۴۸ | • متکبر اور متجبر کا ٹھکانا | ۲۸۸ | • منافق کو اس کے چہرے کی زبان سے پہچانو |
| ۳۵۱ | • بے سوکوش | ۲۸۹ | • نیکیوں کو غارت کرنے والی برائیوں کی نشاندہی |
| ۳۵۲ | • جب ہم سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے | ۲۹۱ | • سخاوت کے فائدے اور بخل کے نقصانات |
| ۳۵۶ | • حسن کارکردگی کے انعامات | ۲۹۲ | • اطمینان و رحمت |
| ۳۵۹ | • مہمان اور میزبان؟ | ۲۹۵ | • آنکھوں دیکھا گواہ رسول اللہ ﷺ |
| | | ۲۹۹ | • مجاہدین کی کامیاب واپسی |
| | | ۳۰۱ | • مال غنیمت کے طالب |
| | | ۳۰۲ | • چودہ سو صحابہ اور بیعت رضوان |
| | | ۳۰۳ | • کفار کے بد ارادے ناکام ہونے |
| | | ۳۰۶ | • مسجد حرام بیت اللہ کے اصل حقدار |
| | | ۳۱۵ | • رسول اللہ ﷺ کا خواب |
| | | ۳۱۹ | • تصدیق رسالت بزبان اللہ |

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست



- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| ۴۴۱ | • اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب فنا | ۳۶۲ | • ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد |
| ۴۴۳ | • آسمان چھٹ جائے گا - وقت احتساب ہوگا | ۳۶۳ | • انجام تکبر |
| ۴۴۵ | • فکر آخرت اور انسان | ۳۶۴ | • تخلیق کائنات |
| ۴۴۷ | • جنت یافتہ لوگ | ۳۶۵ | • تبلیغ میں صبر و ضبط کی اہمیت |
| ۴۴۹ | • اصحاب یمنین اور مقررین | ۳۶۹ | • جنت کے مناظر |
| ۴۵۱ | • وہی مستحق احترام و اکرام ہے | ۳۷۰ | • صالح اولاد انمول اثاثہ |
| ۴۵۲ | • یقینی امر | ۳۷۳ | • کاہن کی پہچان |
| ۴۵۴ | • مقررین کون ہیں اور اولین کون؟ | ۳۷۴ | • توحید ربوبیت اور الوہیت! |
| ۴۵۰ | • اصحاب یمنین اور ان پر انعامات الہی | ۳۷۵ | • طے شدہ بد نصیب اور نشت و برخواست کے آداب |
| ۴۵۶ | • اصحاب شمال اور عذاب الہی | ۳۷۸ | • تعارف جبرئیل امین علیہ السلام |
| ۴۵۷ | • منکرین قیامت کو جواب | ۳۸۵ | • بت کدے کیا تھے؟ |
| ۴۵۸ | • آگ اور پانی کا خالق کون؟ | ۳۸۷ | • آخرت کا گھر اور دنیا |
| ۴۶۰ | • قرآن کا مقام | ۳۸۸ | • گناہ اور ضابطہ الہی |
| ۴۶۲ | • عالم نزع کی بے بسی | ۳۹۰ | • مناقب و کافر کا نفسیاتی تجزیہ |
| ۴۶۲ | • احوال موت | ۳۹۲ | • سب کی آخری منزل --- اللہ تعالیٰ اور اک سے بلند ہے |
| ۴۶۳ | • کل کائنات ثنا خواں ہے | ۳۹۳ | • ”نذیر“ کا مفہوم --- نذیر کہتے کسے ہیں |
| ۴۶۶ | • ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے | ۳۹۷ | • معجزات بھی بے اثر |
| ۴۶۸ | • ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم | ۳۹۸ | • دیرینہ انداز کفر |
| ۴۵۲ | • اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا | ۳۹۸ | • طوفان نوح |
| ۴۵۵ | • ایمان والوں سے سوال | ۳۹۹ | • کفار کی بدترین روایات |
| ۴۵۷ | • صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب | ۴۰۰ | • فریب نظر کے شکار لوگ |
| ۴۵۸ | • دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشہ ہے | ۴۰۱ | • ہم جنس پرستوں کی ہلاکت و زبرداری |
| ۴۶۰ | • تنگی اور آسانی اللہ کی طرف سے ہے | ۴۰۲ | • سچائی کے دلائل سے اعراض کرنے والی اقوام |
| ۴۶۱ | • لوہے کے فوائد | ۴۰۳ | • شلوک و شبہات کے مریض لوگ |
| ۴۶۳ | • حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی فضیلت | ۴۰۷ | • انسان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ایک جھلک |
| ۴۶۵ | • مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کی مثال | ۴۰۹ | • انسان اور جنات کی پیدائش میں فرق |

تفسیر ابن کثیر




چند اہم مضامین کی فہرست



۲۸


پارہ نمبر

- | | | | | |
|-----|--|---|--|----------------|
| ۵۲۶ | • پھونگوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا | ۴۶۹ | • خولہ اور خویلد بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہما اور مسئلہ ظہار | |
| ۵۲۷ | • سونی صدق بخش تجارت | ۴۷۳ | • احکامات رسول اللہ ﷺ اور ہم | |
| ۵۲۸ | • عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں کی روداد | ۴۷۵ | • معاشرتی آداب کا ایک پہلو اور قیامت کا ایک منظر | |
| ۵۲۹ | • سچے عیسائی | ۴۷۷ | • آداب مجلس باہم معاملات اور علمائے حق و باطل کی توقیر | |
| ۵۲۹ | • بنی اسرائیل کے تین گروہ | ۴۸۰ | • نبی کریم ﷺ سے سرگوشی کی منسوختگی شرط | |
| ۵۳۰ | • قرآن حکیم آفاقی کتاب ہدایت ہے | ۴۸۱ | • دو نئے لوگوں کا کردار | |
| ۵۳۱ | • میں دعائے ابراہیمی بن کر آیا | ۴۸۲ | • جو حق سے پھرا وہ ذلیل و خوار ہوا | |
| ۵۳۱ | • اہل فارس کی عظمت | • مال نے کی تعریف وضاحت اور حکم رسول اللہ ﷺ کی تعمیل ہی | • اصل ایمان ہے | |
| ۵۳۲ | • کتابوں کا بوجھ لا دا گدھا اور بے عمل عالم | ۴۸۹ | • مال نے کی تعریف وضاحت اور حکم رسول اللہ ﷺ کی تعمیل ہی | • اصل ایمان ہے |
| ۵۳۳ | • یہودیوں کو دعوت مبالغہ | ۴۹۳ | • کفر بزدلی کی گود ہے۔ تلیس ابلیس کا ایک انداز | |
| ۵۳۳ | • جمعہ کا دن کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ | ۴۹۷ | • اجتماعی کار خیر کی ایک نوعیت اور انفرادی اعمال خیر | |
| ۵۳۶ | • تجارت عبادت اور صلوة جمعہ | ۵۰۰ | • بلند و عظیم مرتبہ قرآن مجید | |
| ۵۳۸ | • منافقوں کی محرومی سعادت کے اسباب | ۵۰۲ | • اللہ تعالیٰ کی صفات | |
| ۵۳۳ | • مال و دولت کی خود سپردگی خرابی کی جڑ ہے | ۵۰۳ | • حاطب رضی اللہ عنہ کا قصہ | |
| ۵۳۵ | • سابقہ واقعات سے سبق لو | ۵۰۵ | • عصبیت دین ایمان کا جزو لاینفک ہے | |
| ۵۳۶ | • منکرین قیامت مشرکین و ملحدین | ۵۰۹ | • مومنوں کی دعا | |
| ۵۳۷ | • وہی مختار مطلق ہے ناقابل تردید سچائی | ۵۱۰ | • کفار سے محبت کی ممانعت کی دو بارہ تاکید | |
| ۵۳۸ | • اللہ کی یاد اور اولاد مال کی محبت | ۵۱۱ | • مہاجر خواتین کے متعلق بعض ہدایات | |
| ۵۵۳ | • عائلی قانون | ۵۱۳ | • خواتین کا طریقہ بیعت | |
| ۵۵۵ | • مسائل عدت | ۵۱۶ | • کفار سے دلی دوستی کی ممانعت | |
| ۵۵۷ | • طلاق کے بعد بھی سلوک کی ہدایت | ۵۲۰ | • ایفائے عہد ایمان کی علامت ہے اور صف اتحاد کی علامت | |
| ۵۵۹ | • شریعت پر چلنا ہی --- روشنی کا انتخاب ہے | ۵۲۱ | • کیا ایفائے عہد واجب ہے؟ | |
| ۵۶۰ | • حیرت افزا شان ذوالجلال | ۵۲۱ | • حضرت عیسیٰ کی طرف سے خاتم الانبیاء کی پیشین گوئی | |
| ۵۶۷ | • ہمارا گھرانہ اور ہماری ذمہ داریاں | ۵۲۳ | • نبی ﷺ کے مختلف صفاتی نام | |
| ۵۷۰ | • تحفظ قانون کے لئے حکم جہاد | ۵۲۴ | • ہر نبی سے آخری نبی کی پیروی کا عہد | |
| ۵۷۱ | • سعادت مند آسید (فرعون کی بیوی) | ۵۲۵ | | |



- ۶۱۹ • کثرت گناہ تباہی کو دعوت دینا ہے ۵۷۷
- ۶۲۱ • جنات پر قرآن حکیم کا اثر ۵۷۹
- ۶۲۲ • بعثت نبوی ﷺ سے پہلے جنات ۵۸۰
- ۶۲۳ • جنات میں بھی کافر اور مسلمان موجود ہیں ۵۸۱
- ۶۲۶ • آداب سجدہ اور جنات کا اسلام لانا ۵۸۱
- ۶۲۷ • اللہ کے سوا قیامت کب ہوگی کسی کو نہیں معلوم ۵۸۳
- ۶۲۹ • ”مزل“ کا مفہوم ۵۸۳
- ۶۲۹ • رسول اللہ کو قیام اللیل اور ترتیل قرآن کا حکم ۵۸۵
- ۶۳۳ • نبی اکرم ﷺ کی حوصلہ افزائی ۵۸۶
- ۶۳۵ • پیغام نصیحت و عبرت اور قیام اللیل ۵۸۷
- ۶۳۷ • ابتدائے وحی ۵۸۹
- ۶۳۹ • جہنم کی ایک وادی صعود اور ولید بن مغیرہ ۵۹۱
- ۶۴۳ • سخت دل بے رحم فرشتے اور ابو جہل ۵۹۲
- ۶۴۵ • جنتیوں اور روزنیوں میں گفتگوں ہوگی ۵۹۳
- ۶۴۷ • ہم سب اپنے اعمال کا خود آئینہ ہیں ۵۹۵
- ۶۴۹ • حفظ قرآن تلاوت و تفسیر کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ۵۹۹
- ۶۵۱ • جب ہماری روح حلق تک پہنچ جاتی ہے ۶۰۰
- ۶۵۲ • اے انسان اپنے فرائض پہچان ۶۰۰
- ۶۵۵ • زنجیریں طوق اور شعلے ۶۰۳
- ۶۵۷ • دائمی خوشگوار موسم اور مسرتوں سے بھر پور زندگی ۶۰۵
- ۶۶۱ • اللہ تعالیٰ اور محمد ﷺ کا باہم عہد و معاملات ۶۰۸
- ۶۶۲ • فرشتوں اور ہواؤں کی اقسام ۶۱۰
- ۶۶۳ • حسرت و افسوس کا وقت آنے سے پہلے ۶۱۲
- جہنم کے شعلے سیاہ اونٹوں اور دیکھتے تانبے کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے ۶۱۵
- دنیا اور آخرت کے فائدوں کا موازنہ ۶۱۸
- بہتر عمل کی آزمائش کا نام زندگی ہے
- جہنم کا دار و ند سوال کرے گا
- نافرمانی سے خائف ہی مستحق ثواب ہیں
- وہ مغفرت کا کالہ لک بھی اور نرفت پر قادر بھی ہے
- رزاق سرف رب قدر ہے
- زمین سے پانی ابلتا بند ہو جائے تو؟
- نون سے کیا مراد ہے؟
- قلم سے کیا مراد ہے
- حضور کا حلیہ مبارک
- زیادہ قسمیں کھانے والے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں
- سیاہ رات اور کئی ہوئی کھیتی
- گنہگار اور نیوکا کردوئوں کی جزا کا مختلف ہونا لازم ہے
- سجدہ اس وقت منافقوں کے بس میں نہیں ہوگا
- مصائب سے نجات دلانے والی دعا نظر فال اور شگون
- نظر لگنے کا دم
- آواز کا ہم صورتوں سے اہل
- اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے
- دائیں ہاتھ اور نامہ اعمال
- ظاہر و باطن آیات الہی
- ہدایت اور شفا قرآن حکیم
- عذاب کے طالب عذاب دیئے جائیں گے
- انسان بے صبر، بیخیل اور بکج بھی ہے
- مرکز نور و ہدایت سے منفرور انسان
- عذاب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قوم سے خطاب
- نو سال صدا بصر اٹکے بعد بھی ایک پیغمبرانہ کوشش
- نوح علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں روداد غم

تفسیر ابن کثیر



چند اہم مضامین کی فہرست



- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| ۴۳۵ | • آل شموذ کی تباہی کے اسباب | ۶۶۸ | • پہاڑوں کی تنصیب زمین کی تختی اور ترمی دعوت فکر ہے |
| ۴۳۹ | • مومن کی منزل اللہ تعالیٰ کی رضا | ۶۷۰ | • جماعت در جماعت حاضری |
| ۴۵۰ | • طالب علم اور طالب دنیا | ۶۷۲ | • فضول اور گناہوں سے پاک دنیا |
| ۴۵۲ | • غیر متعلقہ روایات اور بحث | ۶۷۵ | • فرشتے موت اور ستارے |
| ۴۵۴ | • ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کی فضیلت | ۶۷۷ | • موت و حیات کی سرگزشت |
| ۴۶۱ | • سات قراءت اور قرآن حکیم | ۶۷۵ | • انتہائی بولناک نرذہ خیر نجات |
| ۴۶۳ | • پاک و شفاف اوراق کی زینت قرآن حکیم | ۶۷۸ | • تبلیغ دین میں فقیر و غنی سب برابر |
| ۴۶۴ | • ساری مخلوق سے بہتر اور بدتر کون ہے؟ | ۶۸۰ | • ریزہ کی ہڈی اور تخلیق ثانی |
| ۴۶۴ | • جامع سورت اور عید قربان کے احکام | ۶۸۲ | • ننگے پاؤں ننگے بدن --- پسینے کا لباس |
| ۴۶۸ | • انسان کا نفسیاتی تجزیہ | ۶۹۲ | • اور قبریں پھٹ پڑیں گی |
| ۴۷۰ | • اعمال کا ترازو | ۶۹۴ | • ناپ تول میں کسی کے نتائج |
| ۴۷۱ | • مال و دولت اور اعمال | ۶۹۶ | • انتہائی المناک اور دکھ درد کی جگہ |
| ۴۷۴ | • مسیلہ کذاب اور عمرو بن عاص میں مکالمہ | ۶۹۸ | • نعمتوں راحتوں اور عزت و جاہ کی جگہ |
| ۴۷۵ | • وزنی بیڑیاں اور قید و بند کو یاد رکھو | ۷۰۰ | • زمین مردے اگل دے گی |
| ۴۷۶ | • ابرہہ اور اس کا حشر | ۷۰۵ | • سب سے افضل اور اعلیٰ دن اور ذکر ایک موحد کا |
| ۴۸۱ | • امن و امان کی ضمانت | ۷۱۱ | • عرش کا مالک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے |
| ۴۸۳ | • نماز میں غفلت اور قیاموں سے نفرت | ۷۱۳ | • تخلیق انسان |
| ۴۸۵ | • شہدے سے زیادہ ٹیٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر | ۷۱۴ | • صداقت قرآن کا ذکر |
| ۴۸۷ | • مشرک سے بڑا اور بیزاری | ۷۱۷ | • جس نے صلوٰۃ کو بروقت ادا کیا |
| ۴۹۰ | • گناہوں کی بخشش مانگو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو | ۷۱۸ | • سب کو ڈھانپنے والی حقیقت |
| ۴۹۳ | • بدترین اور بد نصیب میاں بیوی | ۷۲۰ | • کائنات پر غور و تدبر کی دعوت |
| ۴۹۵ | • شان نزول اور فضیلت کا بیان | ۷۲۲ | • شفع اور شر سے کیا مراد ہے اور قوم عاد کا قصہ |
| ۴۹۸ | • اپنی حکمت و تدبر میں وحدہ لا شریک | ۷۲۷ | • سجدوں کی برکتیں |
| ۸۰۰ | • مضبوط پناہ گاہیں ناقابل تسخیر مدافعت اور شافی علاج | ۷۲۹ | • مکہ مکرمہ کی قسم |
| ۸۰۱ | • بیماری و باجاد اور ان دیکھی بلاؤں سے بچاؤ کی دعا | ۷۳۱ | • صدقات اور اعمال صالحہ جہنم سے نجات کے ضامن ہیں |
| ۸۰۳ | • خالق پروردش کنندہ مالک حکمران معبود حقیقی اور پناہ دہندہ | ۷۳۳ | • کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ |